

AL-ISLAAM

**enkyirekyire tiawa bi efa Islaam ho sɛdeɛ
ɛbaa wɔ quraan kronkron mo ene ɔkomhyani
Sunna mo nso.**

Nwoma a ɛdimɔ yie ene deɛ ekekaho efa wɔ Islaam enkyirekyire tiawa asekyire na ɛdaadi ekyire nefapim a ɛdimɔ ene nenimdie enkyirekyire ene nahoteɛ ɛfiri nenkyirekyire afapim ɛno neye quraan kronko ene ɔkomhyani sunna, ene nwoma enkyirekyire tiawa mo efa deɛ ɛso no nyinara ɛfiri musliminii ene deɛ ɔnye muslim ɛwo ɔmo kasa mo efa ɛmmere mo ene biya mo efa deɛ ɛwo ho ene deɛ atwaakyia nyinara.

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٥ هـ

ح

باللغات ، جمعية خدمة المحتوى الإسلامي
نبذة موجزة عن الإسلام (مشملة على الأدلة) - أكاني (أشانتني).
/ جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ؛ جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات - ط١. - الرياض ، ١٤٤٥ هـ

١٣٢ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٤٤٢-٣٦-٤

١٤٤٥ / ١٨٢١١

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Tel: +966 50 244 7000

info@islamiccontent.org

Riyadh 13245- 2836

www.islamhouse.com

1. (eye esu mua a efra wo engyinaso a efiri quraan krɔnkɔ mo ene ɔkomhyani sunna mo)

Islaam eye Onyame kasa soma kasa ekɔ nipa nyinara nkyen, na eno neye Onyame krɔ soma kasa a antimtim na eye Onyame soma kasa a etwatoɔ ema adasamae Awurade kasa nyina ara:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]

{ Islaam eye Onyame kasa soma ekwoɔ nipa nyinara enkye Onyame krɔnkɔ akase:(enye adee a yasoma wo agye se woko wo nipa nyinara nkyen na woye anɔhɔba bɔ ene ɔkɔkɔ bɔfoɔ ema ɔmo na emom nipa dɔdɔɔ ennim) [Suura Saba'i 28]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾ [الأعراف: 158]

{IreAnɔbisɔ pe mo pe eyineniyan (ki e mo wipe) dajudaju Emi ni iranse Allah si gbogbo yin patapataSuratul} [Suura A'raf: 158]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 170]

{Oh eye moɔ nipanom nokware somafoɔ aba mo mo ewo nokore mo efiri moɔ Awurade ho na mɔnya gyidie eno neye adepa ema mɔ,ena se mɔyi eye Onyame kaafiriyaa na nokware ɔnyame newo adee a ewo esoro nsu mo ene asaase mo, Na Onyame neye nimdienii yansawura.} [Suura Nisaa'i :0170]

Islaam eye Onyame kasa soma ekw nipa nyinara nkyen na enw neye Onyame krw soma kasa a atintim,na eye Onyame kasa soma a etwato ma adasamae Awurade ntem ena wkomhyani Onyame asomdwie nka nw ekaase:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]

{ enye adee Mōhwammēd eye moɔ mo krɔ papa efiri moɔ mbranteɛ yi mo na emom ɔye Onyame somanii ena akomhyafoɔ awieye, Na Onyame Allah efa biribiara ɔnim.} [Suura Al-Ahzab:40]

2- ena Islaam enye Nipa bi esom nkoaa anaa se edum bi nko,na emom eye Onyame esom ema nipa nyinara

Na Islaam enye esom nkoaa epɔ anaa se edum bi nkye na emom eye Onyame esom ema nipa nyinara ena ɔye deɛ ɔdekae a yahyenɔ efa quraan kasie yi mo enɔ neye nekasa krɔnkɔ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]

{ Oh eye mɔ nipa nom monsom mo Awurade deɛ ɔɔɔ mo ene deɛ ɔmo ede mo anim ekae sɛdeɛ mo besro Onyame } [Suura Baqara :21]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمُ ارِجَالَ كَثِيرًا وَاُنْسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]

{Oh eye moɔ nipa nom mɔnsro mɔ Awurade Nyame deɛ ɔɔɔ mɔ efiri kiraa baako pe mo ena ɔɔɔ neyire efirii nemo ena ɔpatee mberima dodɔɔ efiri wɔnnom mɔ ene mmaa.} [[Suura Nisai: 1]

Hadiis a yeya efiri Ibun Umara Onyane npenie nka ɔmɔ nokore ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ eyee hutuba ewɔ fatihu makka eɗa ena ɔkaase: & & Oh eye moɔ nipa nom nokware nokore Onyame apam gyaahiliyya gyemisem afiri mɔso ena wakrɔn efa magya nom na eye adea nipa nom akyemo mmienu: Papayenii sronii krɔnkɔ ewɔ Nyame hɔ ena ɔbonienii sansaenii mmerɛ mmerenii ewɔ Onyame hɔ ena nipa nom ye Adam asenii ena Onyame neɔɔ Adam efiri netee mo na Onyame akase:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]

{Oh eye moɔ nipa nom yenna yeɔɔ mɔ efiri mmerima ene mmaa ena ena ɔyee mɔ ɔmae ene abusua seɗee mɔ behunu moɔ hɔ, Na nokore deɛ ɔdemo ewɔ Onyame nkye ne deɛ ɔsro me efiri mɔ mo, Nokware Onyame neye nimdienii yansawura.} [Suura Hujiraat: 13] Yeyaaye efiri Tirimizii ho (3270)

enye adea a wobɛnya ewɔ quraan krɔnkrɔn ahyeɗee mo anaa Okomhyani krɔnkrɔn Onyame asomdwie nka no ahyeɗee so mmera mo a ekɔ ema eɗom bi anaa fekuo bi ahwesɔɔ ewɔ wɔnnom ahyaseɛ mu anaa wɔnnom eɗom mo anaa ɔmɔ abusua kuo mo.

3. Islaam eye Onyame kasa soma deɛ aba a yahye no ma, ema akomhyafoɔ somaye ene adekaefoɔ asomafoɔ ekɔ wɔ edom so Onyame asomdwie nka mo.

Islaam eye Onyame kasa soma deɛ aba a yahye no ma, ema akomhyafoɔ somaye ene adekaefoɔ asomafoɔ ekwɔ wɔ edom mo Onyame asomdwie nka mo:

﴿* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ دَاوُدَ زُكْرًا ﴾ [النساء: 163]

{Nokore yayi ayidie ama wo sedee yayi ayidee ama Nuh ene akomhyafoɔ efiri mo akyi, ena yayi ayidee ama Ibrahiim ene Ismaaeel ene Is-haaq ene Ya'aquub ene Asbaat ene Issa ene Ayyub ene Yunusa ene Haruun ene Suleyman, ena yama Daawood apam zabuura.} [Suura Nisaai: 163]

Na saa esom yi deɛ Onyame aye ama nesomanii Mohammed Onyame asomdwie nka no na eno neye esom deɛ Onyame ayeno mmera ama kanii akomhyafoɔ ena wahye wɔnnom wɔso Onyame kronko akase:

﴿* شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ [الشورى: 13]

{Yaye mmera ama mo wɔ esom yi mo deɛ yahye wɔho Nuh ena deɛ yayi ama wo ene deɛ yahye efa ho ye Ibrahiim ene Musa ene Issa, Se montintim wɔ Nyamesom mo nma mo

ntiti m̄ntem εω̄ so, Abosomsomfō ayε akakabensem εfa deε yεfre w̄n̄nom εω̄ so, Onyame nayi εfiri deε ɔpe mo εna ɔtini w̄so deε ɔpe εfiei deε ɔpenkye N̄ɔ).} [Suura Shoora: 13]

Na saa εsom yi deε Onyame ayε ama nesomanii Mohammed Onyame asomdwie nka no, na εno neye nokware εma nhoma a εdikane w̄o Onyame nhoma mu tese (Atawratu εne Ingyiilu) ansa εnsesae reba mu Onyame kr̄n̄k̄o akase:

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر: 31]

{ Na deε yayi ama wo εfiri nwoma no mu neye nokore a εdi nokware εfa deε εde nanim kae, Nokore Onyame εfa nenkoaa so ɔye yansanii eniwanii } [Suura :31]

4. ερε akomhyafoε Onyame asomdwie nka wεnnoμ εομ ερε baako εna εομ mmera so εbaabra: ερε akomhyafoε.

Onyame asomdwie nka wεnnoμ εομ ερε baako εna εομ mmera so εbaabra, Onyame kesie No akase:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوُزًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾﴾
[المائدة: 48]

{Yasani nwoma ama wo wε nokware so edi nokore adansie ema deε edi nanim εkaε efiri nwoma nom ene ahεbaebo wεso, Na di asem εwε wεnnoμ ntem εfa deε Onyame asani, Na ndi εομ akoma apedeε akyi εwε abra a nokore aba woso, Na εομ biara yaye ama εομ mmera ene εnhyihyεye, Na se Onyame εpe a nanka εyεε εε εdom baako na εomom εεεεε εhwεεεε εfa deε aba mεnkyε, Na senti mεndi akansie dwumadie pa, Na Onyame nkyε na mεrekwε ε nyinara na wabomε amanie εfa deε na moεdi akyinie ensesaye.} [Suura Maaida: 48]

εna εkomhyani Onyame asomdwie nka nε εkaase: " Me na meye nipa mo kandifoε wε Issa Ibunu Mariyam so εwε wiase mo ene atamoda ene akomhyafoε ye anuanom efiri maamefoε ahodoε εna εομ εομ ερε baako. efiri Buhari nkyε (3443).

5. - Islaam efre - Sedee akomhyafoɔ nyinara efre: Nuh ene Ibrahiim ene Musa ene Suleyman ene Daawood ene Issa Onyame asomdwie nka ɔmɔ- ewɔ gyedie mo efa se nokore Awurade Nyame ɔmɔ neye Allaah ɔbɔadee ahɔyanii agyapadie Nkwanii ɔwuonii ahenfo mo hene ɔmɔ neye deɛ ɔdanidani.

Islaam efre - Sedee akomhyafoɔ nyinara efre: Nuh ene Ibrahiim ene Musa ene Suleyman ene Daawood ene Issa Onyame asomdwie nka ɔmɔ- ewɔ gyedie mo efa se nokore Awurade Nyame ɔmɔ neye Allaah ɔbɔadee ahɔyanii agyapadie Nkwanii ɔwuonii ahenfo mo hene ɔmɔ neye deɛ ɔdanidani dwumadie ahobrasie mo ɔmɔ neye timanii ɔdeɛfoɔnii:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعِمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3]

{Oh eye mɔ nipanom mɔnkae Onyame adum wɔ mɔso, Senti yewɔ ɔbɔadeɛ bi efiri Onyame Allah akyi ɔma mɔ ahɔya agyapadie efiri esoro ene asaase mo, Nokore obiara nneho agye ɔmɔ, Na nokore ebesisen na ebesɔnɔ ama ɔmɔ} [Suura :3]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

{Kase wae na ɔma mɔ agyapadie ahɔya efiri esoro ene asaase mo obi wɔho a ɔkɔta asu ene ehunu eniwa mo, ena

wae na ɔyi nkwa efiri ewuo mo ena ɔyi ewuo efiri nkwa mo, ena wae na ɔdanidani dwumadie ebranase, Na ɔmo ebe kase Onyame Allah, Na se kase senti mɔnsro nɔ } [Suura Yunus: 31]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿أَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَٰئِنَا بُرْهَٰنُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾ [النمل: 64]

{Senti wae na ɔɔɔadee ahyasee ena enoakyi ɔdeno ebaaye bio wɔ ne wuo akyi, ena wae na ɔmamɔ agyapadie ahɔya efiri esoro ene asaase mo, Senti Awurade bi eka Allaah ho anaa, Kase mɔnfa mɔngyinasoɔ bi mbra nase mɔye nokorefoɔ. } [Suura Naml: 64]

ena akomhyafɔɔ mo nyinara ene asomafɔɔ Onyame asomdwie nka wɔnnom yesomaa ɔmo efa afre Nyamesem ekwɔ wɔ Onyame nkoa nkoa ho, Onyame kesie akase:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾﴾

[النحل: 36]

{Na nokore mo yasoma ama edom biara asomanii se mɔnsom Allaah na mɔntwi mɔhɔ enfiri abosomsom hɔ, Na wɔnnom bi ye ho dee Onyame atininɔ ena efiri ɔmo mɔ ye ho dee yira atitim neso, Na senti mɔn nanti wɔ asaase yi so na mɔnhwe sɛdeɛ akyiniefoɔ atɔɔfoɔ awieye epimye} [Suura Nahl: 36]

Na Onyame krōnkōnii Nō akasε:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]

{ εna εnye adeε yasoma ɔbi εwɔ wanim εfiri somanii bi agye Nuh ɔkakyire wɔnnom nokore se ɔwɔ nɔ ɔbiara nneho a ɔka neho nokware mo mo agye Me na mɔnsom Nɔ } [Suura Anbiyaa: 25]

Na Onyame abɔ amanie εfa Nuh Onyame asomdwie nka nɔ se nokore ɔwɔ nɔ akasε:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: 59]

{ Oh eye medom menkrufɔw mɔnsom Allaah na mɔnni Awurade adesom biara εfiri nakyi na medee nokore mesro εma mɔ εfa asotwie εwɔ εda kesie.} [Suura : 59]

εna Onyame adanfɔ Ibrahiim Onyame asomdwie nka nɔ - Sεdeε Onyame abɔamanie εfa neho- Nokore ɔwɔ nɔ erekaasε:

﴿وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[العنكبوت: 16]

{ εna Ibrahiim kae wɔ mmere a ɔkakyire nedom se mɔnsom Allaah na mɔnsro nɔ, Saa nɔ neye adepa εma mɔ nase eye adea nka mɔnim a.} [Suura Ankabut: 16]

εna Saalah Onyame asomdwie nka nɔ - Sεdeε Onyame aka nasem wɔhɔ:

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فَيَأْرِضَ اللَّهُ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾﴾ [الأعراف: 73]

{oakaase Oh eye

medom mɔnsom Allaah na mɔnni adesom biara eka neho nakyi, Nokore engyinasoɔ aba mɔnkye efiri mɔ Awurade ho, Saa wai neye aboa naaqa Allaah sankyireni ema mɔ, Na mɔngyae na ɔndi di wɔ Onyame asaase so, ena nma mɔ enfa ehaɔ biara enha nɔ na asotwie yayaaya aba mɔsu.} [Suura : 73]

ena Shuaib Onyame asomdwie nka nɔ - Sɛdeɛ Onyame aka nasem wɔho:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [الأعراف: 85]

{Oh medom menkrufɔɔ yi mɔnsom Allaah na enye adeɛ mɔho adesom bi efiri nakyi, Nokore me de nokware engyinasoɔ pefɛɛ afiri mɔ Awurade ho abre mɔ, Na senti mɔnhye ensenua no ema ene ensusuye, ena Nma mɔ ntesu mma nipa nom dwumadie ena nma mɔ sei asaase yi ewɔ nensiesie akyi, Saa nɔ eye adepa ema mɔ na se moɔye agyediefɔɔ a.} [Suura 85: 85]

ena deɛ ɔde kan a Onyame kasa neho neye Musa Onyame asomdwie nka nɔ, ɔkrɔnkɔnii akase:

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ [١٣] ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14-13]

{ ena Me mayi wo na senti tee efa dee eye ayede yekyire (13) Nokore Me na meye Allaah obiara nneho nokore mo agye Me senti mansom Me ena mofre Nyame Salaat efa nekae mo (14)} [Suura Taha 13-14.]

ena Onyame Allaah ebomanie wo Musa Onyame asomdwe nka no nokore ono osere entwitwagyie efiri Onyame ho na akase:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [غافر: 27]

{ Nokore me mesere entwitwagyie efiri me Awurade ho efiri obiara a nye akesisemni onne gyedie nfa akwontabuo eda.} [Suura Gaafir :27]

Na Onyame abo amanie efa Masihi Issa Onyame asomdwe nka no se nokore ono no akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: 51]

{ Nokore Onyame Allaah neye me Awurade ene moso Awurade,Na senti mansom No, Saa yi neye ekwan tinie a atimtim } [Suura Al-Imrana 15]

Na Onyame kesie tumifo abo amanie efa Masihi Issa Onyame asomdwe nka - biom- no se nokore ono no akase:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ ۖ
 أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: 72]

{Oh eye mo banii israaifoɔ mɔnsom Onyame Allaah me Awurade ene mɔso Awurade, Na nokware deɛ ɔno obesom abosom npataho aka Onyame Allaah ho no na nokware Onyame Allah aye asorohemaa algyannah akyirewadeɛ ewo neso, ɛna egyamo neye tinabre, ɛna ɛnye adeɛ ɔdebonieyanii ɔsisinii ebeya aboafɔɔ biara.} [Suura Maaida: 72]

Na emom empo attawora ene Injeela ebaa ewom a atimtim Onyame som nkoa na nokore aba wo Musa kasa nantie nkafoɔ mo Onyame asomdwie nka no:(Oh Israail tie yen Awurade ye adesom kro pe)Na aba entimtimye so efa tawoheed nimdie wo injeela mark nwoma mo ewo mmerɛ a masiihi Issa ekaase:(Nokore samansew a edikae neye: Oh Israail tie yen Awurade ye adesom kro pe).Onyame Allaah ɔtumifoɔ ɔkesie wadani adi se nokware komhyafoɔ nyina ara ye de adekesie a edemo na yasoma efa saa so eno neye efre eko tawoheed nimdie, Onyame kesie akase:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ
 اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكذِبِينَ﴾ [النحل: 36]

{Na nokore mo yasoma ama edom biara asomanii se mɔnsom Allaah na mɔntwi mɔho enfiri abosomsom ho,Na wɔnnom bi yeho deɛ Onyame atininɔ ɛna efiri ɔmo mo yeho deɛ yira atitim neso, Na senti mɔn nanti wo asaase yi so na

mṓnhwe sēdee akyniefōw atōrōfōw awieye epimye.} [Suura Nahl: 36]

Na waka se:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾﴾
[الأحقاف: 4]

{ Kase se mṓnkakyire me dee moṓfre wṓnnom wṓ Onyame akyi no mṓnkyire me den adee na ṓmṓ abṓ wṓ asaase so anaa se ṓmṓ ewṓ dee ṓka Onyame hṓ ewṓ esoro nsu mo ene mṓnfa nwoma bi nbre me efiri ansaana saa yi akyi anaa se nimdie bi akwan nase mṓye nokwarefōw} [Suura Ahqaaf: 4]

Hyaikh Saadii Onyame ahunumṓbrṓ nka nṓ akase:(Na hunu se abosomsomfōw akyniedie ewṓ wṓnnom mmataye mo a engyinasṓw biara anaa nokore biara nka ho, Na emom ṓmṓ etwire

wṓnnom adwenedwene atorṓ,ene adwenekyerē fii ene adwene seiyye ekyire wo neseyye atimtim atwaakyia ena ṓmṓ adi wṓnnom nimdie ene ṓmṓ dwumadie ene ṓmṓ ensusuye ehunu wṓ mmerē mo efiri ṓmṓ nfie afaanim efa ṓmṓ som senti aba nfasṓw ama wṓnnom anaa(eye saa adea yeesom ṓmṓ efiri Onyame akyi) koraa ewṓ wiase mo anaa wṓ atamoadā awieye da?)Nwoma Taesiirul Kareem Almanaan: 779

6. Onyame Allaah akronkani okesie na nye obadee na nye dee fata efa som nkoa na yensom obi nka neho koraa nakyi.

Allaah na nye dee fata nokore se ebesom na nkoa ena yensa obi nka neho efiri nakyi Onyame Allah kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: 21-22]

{ Oh eye na nipa nom mansom na Awurade dee oba na ene dee na ede manim ekae sodee na besoro(21) Dee nye asaase kete emaa na ena esoro so nye edae ena sanii nsuo ena nye nnobaye emaa na eye na agyapadie, Na nma na yensa Allaah dodo ewa abraa manim (22).} [Suura Baqara: 21-22]

Na dee oba ye ene edom a ede yanim kae ena nye asaase kete emaa ena sanii yesu nsuo efiri soro nsuo ena yaye efiri na nnobaye emaa nye agyapadie emam; na nafata nokore efa nesom nkoa ena wakase okesie:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفِكُونَ ﴿٣﴾﴾ [فاطر: 3]

{Oh eye na nipanom mankae Onyame adum na mso, Senti yewa obadee bi efiri Onyame Allah akyi na ma na ahya agyapadie efiri esoro ene asaase na, Nokore obiara nneho agye na, Na nokore ebesisen na ebesonba ama na} [Suura :3]

Na deε ɔbɔadeε εna ɔma agyapadie ɔnɔ nefata nokore εfa nesom nkoaa na ɔkeseε wakase:

﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكَيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنعام: 102]

{ Saa wae neye Allaah mɔ Awurade, obiara nneho nokore εka neho agye ɔnɔ nkoaa, ɔnɔ neɔɔ biribiara na senti mɔnsom nɔ, εna ɔnɔ na biribiara εtwire nɔ.} [Suura An'aam:102]

εna adeε biara a yeεsom no Onyame akyi εnye adeε ɔfata nokware mo εsom, εfise nokore εnye adeε ɔmɔ εbetumi akuta adekitua εnsesɔ ɔ ɔsoro anaase deε εwɔ asaase mo εna Onyame ɔnne npatahɔ biara εfiri beεbiara anaa deε ɔka neho anaa deε ɔbɔa nɔ, na adentira na ɔmɔ εfre obi εka Onyame εhɔ anaase ɔye obi εka neho, ɔkesie akase:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾ [سبأ: 22]

{Kase mɔnfre deε mɔdwene ɔmɔ hɔ εfiri Onyame akyi, εnye adeε ɔmɔ εbetumi akuta adekitua bi a εnsesɔ a εtise netie ɔ asaase mo anaase εwɔ εsoro nsu mo εna εnye adeε ɔmɔ εwɔ εmo εfiri npatahɔ εna εnye adeε ɔmɔ εwɔ εfiri mo aboanii biara.} [Suura Saba'i: 22]

Onyame ahotienii ɔkesie ɔmɔ neye deε ɔbɔɔ saa abɔdeε yi nyinara εna ɔde ɔmɔ εbaaye εwɔ abraa wɔnnom nneho εkyire ngyinasɔ ɔ sε ɔwɔ hɔ εtiase εwɔ adeε wabɔ mo εne nekrɔye, Onyame kesie nɔ akase:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِزَاءَ السَّنَةِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْتُمْ غَافِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَهْوٍ قَلْبُونَ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾﴾ [الروم: 20-27]

{ efiri me sankyireni nom bi ne se me mabo mo afiri netee mo ena enoakyi moɔ madani nipa nom a dee yapeti mo (20) efiri Onyame sankyireni nom bi nom ne se ɔboɔ ɔyire efiri yemɔ sedee ye ne ɔmo ebeda ena ɔyee mɔntemo edo ene ahunumɔbro, Nokore ewo saa sankyi yi mo eye awhahasem edema edom a ɔmo edwene (21) eka Onyame sankyireni nom bi se ɔboɔ esoro ene asaase ene ensesaye kasa keterema ene mɔnfɔni, Nokore ewo saa yi so eye sankyireni ede ma adasamae (22) efiri Onyame sankyireni nom bi ne mɔnda ewo anadwo ene adekyee ena mo de etwetwe efiri me adom mo, Nokore ewo saa yi mo eye sankyireni edema edom a ɔmo etee (23) sankyireni nom bi ɔmamɔ ehunu ebo aheramo ebo mo hu esro ene akutatɔye ena wasani nsuo afiri esoro na ema asaase fum nkwa ewo newuo akyi, Nokore efiri saa yi so eye sankyireni edema nkrufoɔ a ɔmo edwene (24) eka Onyame sankyireni nom bi ne se ɔmaa ɔsoro ene asaase egyinahɔ ewo nenhyihyeye mo, Na enoakyi na yafre mo enfreye prekɔpe afiri asaase mo na saa mmerɛ no na mo repuepue afiri mo (25) ena ɔno na ɔwo

adee biara a ewo osoro nsu mo ene asaase mo, Nyinara no wannonn ebra omo ase ema ko (26) ena oko neye dee ode abodee ebaaye ena enoakyi osaade ekwooye ena oko ko eye adee emere ema ko] [Suura Ruum: 27]

Na Namurood ewo Onyame ewo ho na Awurade ena Ibrahiim ekaase Onyame asomdwie nka ko sedee Onyame erebo ho amanie efa ho:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾﴾ [البقرة: 258]

{ Ibrahiim akase na nokware Onyame Allaah ode awia efiri apereye ekwo atoye na fa firi atoye ekwo apereye ena dee oye kaafirinii ko eyeedeen fere mo, Na Onyame Allah otini edom akyiniedifoo asesie.} [Suura Baqara: 258]

ena saa ara so na Abraham Onyame asomdwie nka ko ama ngyinasoo wo nenkrufoo so efa nokore oko naye dee otini no ene wama ko aduane ene nsuo enum ena se oyare a omo ko apotie ena oko neye dee obekum ko na wama ko nkwa, Na sedee Onyame abo ho amanie wakas:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾﴾ [الشعراء: 78-81]

{(Dee okoko me na oko na obetini me (78) Na oko neye dee omo me aduane ena omo me nsuo num (79) ena se meyare a oko na osame yarie apotee (80) ena oko ne dee obekum me na enoakyi wama me nkwa (81) }[Suura Shu'araai: 78- 81]

Na Onyame Allaah abo amanie efa Musa Onyame asomdwie nka no se nokore one firuana adi akyinie prekwore ena Moses kakyire no se: Nokore me Awurade ononye:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50]

{ Dee oma nabodee biara dee ope na enoakyi na watini ko.} [Suura Taaha: 50]

Na Onyame abrease biribiara efa dee ewo esoro nsu mo ene asaase ede ama nipadasenii ene dee atwahyia adum nyinara; Sedee omo ebesom Onyame Allaah na enye adee a omo ebeye no kaafiriya, Onyame kesie akase:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [لقمان: 20]

{Asenti monhwe nhunu se nokore Onyame abrease ama mo efa adee biara ewo esoro nsu mo ene dee ewo asaase mo ena wapeti ama mo naadum pefee ene dee asoma awinta, Na efiri nipa nom bi dee odeakyyinie wo Onyame ho ewo abraa nimdie biara nnim anaase tinee anaase Nyame nwoma ehae.} [Suura :20]

ena sedee Onyame abrease ama nipa efa adee biara a ewo esoro nsu ene asaase na nokore oboo no ena oye ahoboa efa adee biara a ehia ma no wo dee ope biara efiri aso ene eniwa ehunu ene akuma sedee ode besua nimdie dee ye nfasoo ema no na ama no adwen efa ne boafu ena dee oboo no, Onyame kesie no akase:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78]

{ ena Onyame Allah ɔɔ na ɔyeɛ mɔ efiri mɔ maame mo
yafɔno mo na enye adeɛ

mɔnim biribiara koraa ena ɔmaa mɔ asuteɛ ene eniwa
ehunu ene akuma, Na sɛdeɛ etie biara mɔ bedaase.} [Suura:
78]

Na Ahoteɛnii no Onyame kesie nokore wabɔ biribiara wɔ
wiasɛ mo ena wabɔ nipa ene wayɛ ahɔboa efa biribiara edeɛ
ɔpɛ etwihwe wɔhɔ efiri deɛ ekikahɔ ene tumi so enoakyi na
yama nɔ emmerɛ efa deɛ ebeboa nɔ ewɔ entimtimye efa
Onyame Allaah esom ene wiasɛ mo anamɔtuo enoakyi ena
wabra ase ama mɔ efa adeɛ biara a ewɔ esoro ene asaase
mo. Onyame de sɛdeɛ wabɔ saa abɔdeɛ kesie yi dodɔɔ aye
ngyinasɔɔ efa nebaako pɛ ho a erekyere sɛ nyamesom wɔ
no, na wakasɛ ɔkrɔnkɔnii ɔkesie:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

{Kasɛ wae na ɔma mɔ agyapadie ahɔya efiri esoro ene
asaase mo obi wɔho a ɔkɔta asu ene ehunu eniwa mo, ena
wae na ɔyi nkwa efiri ewuo mo ena ɔyi ewuo efiri nkwa
mo, ena wae na ɔdanidani dwumadie ebranase, Na ɔmɔ ebe
kasɛ Onyame Allah, Na sɛ kasɛ senti mɔnsro nɔ} [Suura
Yunus: 31]

ena waka nɔkware ɔkrɔnkɔnii:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

{ Kase se mɔnkakyire me dee moɔfre wɔnnom wɔ Onyame akyi no mɔnkyire me den adee na ɔmɔ abɔ wɔ asaase so anaa se ɔmɔ ewɔ dee ɔka Onyame ho ewɔ esoro nsu mo ene mɔnfa nwoma bi nbre me efiri ansaana saa yi akyi anaa se nimdie bi akwan nase mɔye nokwarefoɔ.} [Suura Ahqaaf: 4]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بَعِيرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْقَمَى فِي الْأَرْضِ رَواسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ [لقمان: 10-11]

{Wabɔ esoro nsu ewɔ abraa afapim nkahɔ na moɔ hwe yi ena ɔtuu abɔɔ etuu asaase so se ebetimtim ada ho amamɔ ena ɔpatee ewom aboa biara, ena ɔsanii ye efiri mo nsuo a efiri esoro na afifi ayani ewom adee biara eyefe edimo, Saa wai neye Onyame Allaah abɔdee na mɔnkyire me deen adee na ɔmɔ abɔ dee moɔsom wɔnnom efiri Onyame akyi, Na emom akyiniediefoɔ ɔsisifoɔ wɔ yira pefee mo.} [Suura Luckman: 10 - 11]

ena waka nokware ɔkrɔnkɔnii:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴿٣٧﴾ [الطور: 35-37]

{ Anaa Asenti wɔnnom abɔ biribi kitua bi efiri Onyame akyi anaa sɛ ɔmɔ no yebɔɔ ɔmɔ (35) Anaase wɔnnom neɔɔ ɔsoro nsu ene asaase anaa emom nokore ɔmɔ enya gyidie ntintim (36) Anaase wɔnnom neho wo Awurade ahɔya agyapadie safoa anaase ɔmɔ nom yenna yekuta wɔnnom adanidani mo (37) [Suura Tuur: 35 - 37]

Hyaikh Sa'ad akase:(ena saa engyinasoɔ yi ewɔ wɔnnom so efa tumi ahyɛdie a ɔmɔ ntumi nkuta ewom biribiara wɔɔ agye sɛ ɔmɔ ede ɔmɔ hɔ ema nokore anaase ɔmɔ gyae deɛ eyɛ nhyɛ efiiir adwene ene esom)Tafseer Ibn Sa'adii: 816

7. Onyame Allaah ɔɔ nɛyɛ ɔɔɔadeɛ ɛfa biribiara deɛ wɔ wiam ɛfiri deɛ yɛhunu ɛne adeɛ biara a deɛ yɛ abɔdeɛ ɛfiri adeɛ a wabɔ ɛna Onyame Allaah wabɔ ɔsoro nsu ɛne asaase ɛwɔ ɛda nsia mo:

ɔkrɔnkɔni Onyame Allaah ɔɔ nɛyɛ ɔɔɔadeɛ ɛfa biribiara deɛ wɔ wiam ɛfiri deɛ yɛhunu ɛne adeɛ biara a deɛ yɛ abɔdeɛ ɛfiri adeɛ a wabɔ ɛna Onyame Allaah wabɔ ɔsoro nsu ɛne asaase ɛwɔ ɛda nsia mo, Onyame kɛsie nɔ akase:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْرُومُ﴾ [الرعد: 16]

{Kase wae nɛyɛ ɛsoro nsu ɛne asaase Awurade ɔɔ kase Onyame Allaah, Kase senti mafa wɔnnom ɛfiri aboafɔnii akyi na ɔɔ ntumi nkuta ɛfa

ɔɔ kираа bi nfasɔ anaase ɛhao, Kase senti ɛnifranii ɛne ɛniwa ɛhunu ɛbeyɛ pɛ,anaase ɛsum ɛne ɛhae ɛnhyirene ɛbeyɛ pɛ,anaase ɔɔ ayɛ aka Onyame hɔ nɔpatahɔ ɔɔɔadeɛ ɛdeɛ wabɔ nabɔdeɛ na nabɔdie nɔ ɛyɛ ɔɔ sɛ ɛtisa anaa, Kase Onyame Allaah nɛyɛ ɔɔɔadeɛ ɛfa biribiara ɛna ɔɔ nɛyɛ baako pɛ ɔkum ɛbrease.} [Suura Ra'ad :16]

ɛna Onyame kɛsie akase:

﴿...وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]

{ " ɛna wabɔ abɔdeɛ deɛ mɔnim." } [Suura Nahl : 18]

ena Onyame nabɔɔ esoro nsu ene asaase ewɔ eda nsia mo, Onyame kesie akase:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: 4]

{ɔɔɔ neye deɛ ɔɔɔɔ esoro nsu ene asaase ewɔ eda nsia mo enoakyi ena ɔyeɛ pɛpɛɛ ewɔ arɔhyi so'mpa ahenie' ɔnim deɛ ɛrewura ewɔ asaase mo ene deɛ ɛrepeɛ ɛfiri mo ene deɛ ɛresani afiri ɔsoro mo ene deɛ ɛrekwɔ ɛwom, ena ɔɔɔ neye deɛ ɔka mɔɔɔ beɛbiara a mɔɔɔ, ena Onyame ɛfa deɛ moɔye biara ɛye nanim ɔhunu.} [Suura Hadid :4]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: 38]

{ ena nokware mo yabɔ esoro nsu ene asaase ene deɛ ewɔ emo ntem ewɔ eda nsia mo ena enye adeɛ a ɛhao bi akaye ɛfiri bre mo } [Suura Qaf: 38]

8. ɛna Onyame Allaah ahɔtienii ɔkesie ɔnne npatahɔ wɔ netumi mo ɛne adebɔ mo anaase nedani dani mo anaase nesom hɔ.

ɛna Onyame Allaah ɔkrɔnkɔ ɔkesie ɔnɔ neye Ahene mo hene tumi wura ɛnye adeɛ ɔbi ɛka neho npataye mo ɛwɔ nadebɔ mo anaase netumi mo anaase nedani daniye mo, Onyame Allaah ɔkrɔnkɔ akase:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾﴾
[الأحقاف: 4]

{Kase se mɔnkakyire me dee moɔfre wɔnnom wɔ Onyame akyi no mɔnkyire me den adeɛ na ɔmɔ abɔ wɔ asaase so anaa se ɔmɔ ɛwɔ dee ɔka Onyame hɔ ɛwɔ ɛsoro nsu mo ɛne mɔnfa nwoma bi nbre me ɛfiri ansaana saa yi akyi anaa se nimdie bi akwan nase mɔye nokwarefoɔ.} [Suura Ahqaaf: 4]

Hyaikh Saadii Onyame ahunumɔbrɔ nka nɔ akase:(ɛkyire se : {Kase} efa saa nkrufɔɔ yi dee ɔmɔ aye mpatahɔ ɛka Onyame h anaase abosom ɛne adesom dodɔɔ na wɔnnom ntumi nkuta nfasɔɔ bi nma ɔmɔ anaase ehao bi anaase ɛwuo bi anaase nkwa bi anaase yaniya, Kakyire ɔmɔ -pɛfɛɛ ɔmɔ antumi anaase ɔmɔ abosom ɛna nokore ɔnɔ nɔ ɛnye adeɛ ɔfata koraa efa ɛfiri esom: { mɔnkyire me dee benna ɔmɔ abɔ wɔ asaase so anaase wɔnnom ho tumi npatahɔ bi ɛwɔ ɔsoro mo } Senti ɔmɔ abɔ nuama nom bi kitua a ɛwɔ ɔsoro mo anaa?Senti wɔnnom abɔ apepɔ anaa? Asenti wɔnnom abɔ nsuo tineɛ bi anaa?Asenti ɔmɔ abɔ apite mmua anaa?Asenti ɔmɔ ama ndua afifi anaa? Asenti ɔmɔ ɛboa Onyame ɛwɔ

nadebo kitua bi efiri saa so anaa?biribiara asem ye nneho efa omo ntimtmye efa omo ho adom wo omo akyi,na saa wae neye engyinaso adwene nokware pefee mo ewo adee a biara ode nehoo etutu Onyame Allah na nesom eye atoro fii seiyye.enoakyi wakeka engyinasoo ema eya na wakase : { Mōnbre Me nwoma bi efiri saa yi so ansaana} Nwoma a efre ekwo mpataho { Anaa anamotuo bi efiri nimdie mo } omo ede adidie bi efiri akomhyafo mo yahye wōnnom wo ho efa saa so, efiri dee yenim mo se nokore wōnnom antumi anfa nba wo baako pe mo efiri akomhyafo wo engyinasoo ekyire saa so na emom yegyetom etimtim so se akomhyafo no nyinara efre ekwo omo Awurade nimdie tawoheedi so ena omo ebra efiri wo abosomsom ho ewo ho ena eno nasu efa dee ediakwoṭini wōnnom so efiri nimdie mo)Tafseer Ibn Sa'adii: 779

ena Onyame Allaah okronko okesie owo neye ohene mo hene tumi, onne obi a oka nehoo ewo nahenie, Onyame kesie no aka se:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلكِ نُورِي الْمُلكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]

{Kase onyankropon ohene mo hene ode nahene ema dee ope ena ogye nahenie efiri dee ope ena oma tumi wo dee ope ena obra ase efiri deo ope mo,efa wonsam na adapa eho, Nokore wo na enhyihyeye tumi biara eho} [Suura Al-Imrana :26]

Na Onyame Allaah okesie aka pefee mo se nokware nahenie ahyema ama no atamoda:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

" edaa wɔnnom eda ho pɛfɛɛ, ɛnye adeɛ biribi bi ɛbɛwinta wɔ Onhyame ɛfiri wɔnnom mo koraa, ɛfa saa eda yi wae naho ahenie tumi ndɛdaɛ,ɛye Onyame Allaah nkoaa krɔpe na akum mo abremase.} [Suura Ghafir: 16]

ɛna Onyame Allaah ahɔtienii ɔkesie ɔnne npatahɔ wɔ netumi mo ɛne adebɔ mo anaase nedani dani mo anaase nesom hɔ, Onyame kesie akase:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ لَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِّنَ الدَّالِّ وَكَبِيرًا﴾ [الإسراء: 111]

" ɛna kase aseda nyinara ɛwɔ Nyame ho deɛ ɔnne ɛba ɛna ɛnye adeɛ a ɔbi ɛka neho ɛwɔ nahenie mo ɛna ɛnye adeɛ ɔho aboafɔɔ bi ɛfiri ɛhao abrasie,ɛna tumtum nɔ atumtumye kesie. } [Suura Israail: 111]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2]

{(Deɛ ɛye nedɛɛ ɛwɔ nɔ ɛsoro nsu ɛne asaase ɛna ɛnye adeɛ a ɛwɔ ɛba ɛna ɔnne ɔbiara a oka neho ɛwɔ nahenie mo ɛna ɔɔ nɛbɔɔ biribiara ɛna ɔyeɛ nenhyihyɛye ɛwɔ neso nhyihyɛye.} [Suura Furqaan : 2]

ɔɔ nɛye ɔhene ɛna ɛnye adeɛ a ɔbi ɛwɔ ahenie agye ɔɔ ɔkrɔnkɔnii diya ɔɔ nɛye ɔbɔadeɛ ɛna adeɛ biara a ɛde hene

eye nediya ena ɔnɔ neye deɛ ɔbre ase enhyihyeɛ ena deɛ
 ɔwɔ saa tebia yi mo na efata ema nɔ nesom ena esom efiri
 nakyi esote ewɔ adwene mo ena abosomsom ye seiyye
 edema wiase ene awieye da, Onyame kesie akase:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَٰ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: 135]

{ " ena wɔnnom ekaase mɔndani jew nee anaase akistofɔ
 na mɔ betini, Na emom Abraham ekwan neye trɔduoo
 nokore, ena enye adeɛ ɔye abosomsomni..} [Suura
 Baqara :135]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَٰ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ
 اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]

{ Na hwan na esom sompa sene Obi a ɔbe bere n'ananim ama
 Onyame na ɔye dwuma pa na ɔnam Abraham kwan teneneɛ
 soɔ, Na Onyankɔrɔn aye Abraham ne dɔfo..} [Suuratu An-
 Nisa 125]

ena wadanidi pefee nokware mo ɔkrɔnkrɔn se obiara
 obede ekwan bi akyi afiri madanfɔ Abraham ekwae no
 Onyame asomdwie nka nɔ na nokware nadwene mo ekano
 nekiraa, Onyame kesie akase:

﴿وَمَنْ يَرْعُبْ عَن مِّلَّةِٰ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَٰ نَفْسَهُۥ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُۥ فِي
 الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]

{ Na Obibiara mpo Abraham kwan no gye Obi a ɔnnim
 nekera gyenabere, Nokware ye ayi no ahye no animonyam

wɔ wease yi mu, Na esipi se aɛmmuada nso ɔka apapafɔ
ho.} [Suuratu AL-Bakara 130]

9. ɛna Onyame ɔkrɔnkɔnii ɔnne ba ɛna yenwuu nɔ ɛna ɛnye adeɛ ye de nɔ ɛtutu obi anaase ɛnsesɔɔ bi.

ɛna Onyame ɔkrɔnkɔnii ɔnne ba ɛna yenwuu nɔ ɛna ɛnye adeɛ ye de nɔ ɛtutu obi anaase ɛnsesɔɔ bi, ɔkrɔnkɔnii nokorenii ɔkesie akasɛ:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
[الإخلاص: 4-1]

{ Kase ɔnɔ Allaah ɔye krɔpe (1) Allaah na ɔbiara ɛdaa nɔ ɛrehwihwe ɛfiri (2) ɔnne ba ɛna yen wuu nɔ (3) ɛna ɛnye adeɛ a ɛde Nɔ ɛtutu biribi ye ɛnsesɔɔ mo (4). [Suura Ikhlas :1- 4]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مریم: 65]

{ ɛsoro nsu ɛne asaase ɛne adeɛ biara a ɛho ɛmo ntem Awurade Nyame ɛnam senti mɔnsom Nɔ na mɔnsi abotire wɔ nesom hɔ, Asenti mɔ mati ɛfa nediin hɔ da } [Suura Maryam : 65]

ɛna nokware ɔkesefɔɔ aka sɛ:

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]

{ Dee ɔde ɛsoro nsu ɛne asaase ɛbaaye, ɛna waye mɔ mo yire ɛne kɔnɔ ɛna ɛfiri ɛmmaa mo so yire ne kɔnɔ, ɔkae mɔ wɔhɔ, ɛnye adeɛ a ɛwɔ ɛnsesɔɔ bi koraa, ɔnɔ nɛye asutie ɛne ɛniwa ɛhunu.} [Suura Shora: 11]

10. ena Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔnfata biribiara koraa ena enye adee a ɔye honam mo koraa efiri nabɔdee mo.

na Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔnfata enye nma no biribiara koraa anaase ɔbedani honam awura wɔ nabɔdee mo

ena biribiara nneho a yede etutu no koraa; efise saa no nokware Onyame Allaah ɔno neye ɔbɔadee ena dee ɔtise saa no ɔye dee yabo no ena ɔwo akyire ena dee nemmere mo ebefiri ho adee biara ebefiri ho, na ɔno neye ɔhene ɔtomifoɔ ɔno nakuta tumi biara ena biribiara nfata nma Onayme ewo efiri nabɔdee mo ena biribiara nfata Onyame efiri nabɔdie mo wɔ nesu mo sɔdie ɔtee ɔkrɔnkɔnii ena Onyame ɔkrɔnkɔnii okesie ɔso esine biribiara ena ɔbro kesie mo efiri biribiara mo, Onyame kesie ɔpo obiara a ɔdwene se nokore mo ɔfata masihi Issa (yesu jesus):

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [المائدة: 17]

{Nokore mo paa waye kaafiriya dee ɔmo ekaase nokore Onyame Allaah ɔno neye Yesu Issa Marry ba, Kase na whae na ɔkuta tumi ahenie efiri Onyame ho nase ɔpese ɔsei ekum issa marry ba ene nemaame ene dee eho efiri asaase mo nyinara mo, Onyame ho na tumi ahenie esoro nsu ene asaase ene dee ewom nyinara eho, ena ɔbo dee ɔpe, ena

Onyame naho tumi εωα adeε a biara so nhyihyeε..} [Suura Maaida: 17]

Na Onyame kɔnɔnɔnii Nɔ akasε:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنٌ ﴿١١٦﴾ بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قٰضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ ۗ كُنْ فِیَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾ [البقرة: 115-117]

{ εna Onyame Allaah na apεεε ene atɔεε εεε nedeε, senti βεεbiara a mɔho mɔndani manim mɔntumtum Onyame animuoyam, Nokware Onyame Allaah nenimdie mo εbae (115) εna wɔnnom εkasε Onyame Allaah εho ba, Ahotε εho Onyame , dεε bi da ɔnɔ nεho εsoro nsu ene asaase, biribiara εbrenase εma Nɔ (116) Dee ɔde ɔsoro nsu ene asaase εdebaaye nfitiasie mo, εna sε ɔrehyε biribi tumi a na dεε ɔka nesε ye ho na ayε ho (117)} [Suura Baqara: 115 - 117]

Na Onyame kɔnɔnɔnii Nɔ akasε:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا اِذَا ﴿٨٩﴾ تَكٰدُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرٰنَ مِنْهُ ۗ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا یَنْبَغِیْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِیَالرَّحْمٰنِ عِبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِیهِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾﴾ [مریم: 88-95]

{ εna ɔmɔ εkasε Ahunumobrɔ hene εho ba (88) Na nokore mɔ de ade fɔfrɔ bi aba (89) Akasε εsoro nsu ene ati atɔ wɔ wɔnnom su εna asaase so adwedwa apae εna apipɔ so abubu agɔfum prεkwɔpε bɔkwɔɔ (90) Sε ɔmɔ εkasε Onyame Allaah Arahamaan εho ba (91) εna εnyε adeε εfata sε Onyame Arahamaan εβεho ba (92) Agye sε adeε a biara

ewo ɔsoro nsu mo ene asaase mo aba Onyame Arrahamaan ho atamoada na ɔye akoa (93) Na nokore yatworo adee biara a ɔwo aye ena yayeho ahoboa ema wɔnnom (94) ena wɔnnom nyinara ebaba atamoada baako baako (95). [Suura Maryam : 88 - 95]

Na waka se:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمَةٌ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255]

{Onyame Allaah ɔbiara nka neho nokware mo agye ɔwo neye nkwa a ɔtim ho daa, enye adee a ɔtonkuo anaase ɔda, ɔwo neho dee ewo ɔsoro nsu ene dee ewo asaase mo, whae neye dee ɔma npataye eho nenkye agye efa nɛɛ, ɔnim dee eho nanim ntem ene dee eho nenkye mo ne nakyi, ena enye adee biribi be

atwahyia efiri nenimdie mo agye dee ɔɛ, ena akonya kursiyu etere bae esoro ene asaase, ena enye adee biribi be ebɔnehobae, ena ɔwo neye ɔkwɔkrokwo kesie.} [Suura Baqara :255]

Na dee wae neye nedwumadie ena saa whae dwuma yi neye ɔbɔadee na ebeye denna efata efiri wɔnnom bi? anaase ɔbɛfa no se ɔho ba? anaase ɔde ɔbi ebɛka neho abɔdeɛ?

11. Onyame Allaah ƙrɔnkɔnii ƙesie ɔɔ neye timanee ɔɔɛfoɔnii ɛma nenkoa ɛnam senti ɛna ɔsoma asomafoɔ ɛna ɔsanii nwoma.

ɛna Onyame Allaah ƙrɔnkɔnii ƙesie ɔɔ neye timanee ɔɔɛfoɔnii ɛma nenkoa, Na deɛ ɔye ahunumobro neɛ ɛma nenkoa nti ɛna wasoma wɔnnom asomafoɔ ɛna wasani nwoma ama ɔmɔ; Sɛdeɛ ɔbeyi ɔmɔ afiri ɛsum kaafiriya mo ɛne abosomsom ɛrekwoɔ nhyirenii Onyame kro pe nimdie tawoheed mo ɛne tinie mo, Onyame kesie akasɛ:

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحديد: 9]

{ ɔɔ neye deɛ ɔsani wo nenkoa so aaya sankyireni pɛfɛɛ sɛdeɛ ɔbeyi ɔmɔ afiri ɛsum mo awura ɛhaɛ nhyirenii mo, ɛna nokore Onyame ɛfa mɔ ɔye timanee ɔɔɛfoɔnii..} [Suura Al-Hadid: 9]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]

{ ɛna ɛnye adea yasoma wo agye sɛ wobeyi ahunumobro ama adasamma..} [Suura Al- Anbiya'a : 107]

ɛna Onyame ahyɛ nekomhyanii ɛfa sɛ oɔbo amanie nkyire nenkoa ɛfa sɛ nokware ɔɔ neye bonifakyenii ahunumobro ɔɔɛfoɔnii,na Onyame kesie akasɛ:

﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49]

{ Kakyire Menkoa nom sɛ nokore me na meye bonifakyenii ahunumobro ɔɔɛfoɔnii..} [Suura Hijr :49]

ena wo nadom ene nahunumobrɔ mu ɔɔ na ɔye mosoɔ ne
ɔhao efiri Nipa so ena ɔɔ nasani nhyira pa wo nenkoa so,
Onyame Allaah ɔkesie akase:

﴿وَأَن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]

{ " ena se Onyame ede mosoɔ ehao bi eka wo a na ɔbiara
nneho a ɔbetumi aye afiri woso agye ɔɔ, ena se ɔpe wo ne
adepa a enye adee a ɔbi ebetumi apam efa naadom, ɔɔ
nenkoa mo hwe nensohwe efiri dee ɔpe, ena ɔɔ neye
bonifakynii edeefoɔnii" } [Suura Yunus: 107]

12. Onyame Allaah ɔno neye Awurade ɔɔɛfoɔ hene ɔno neye baako pe deɛ ɔɔɛɔ nenkoa akwɔntabuo atamoadɔ ɛwɔ emmere a yɛɔyɛni obiara afiri adakamina mo na ɔma obiara akɛtua ɛfa deɛ wadi ɛfiri adɛpa mo anaase bonee mosoɔ mo,na deɛ ɔɔɛ di dwumadi pa na ɔye ɔgyedienii na ɔho adom a atimtim ɛna deɛ wayɛ kaafiriya ɛna wadi dwumadie bone ɛne ɔho asodwie kɛsie ɛwɔ awiɛye da atamoadɔ.

Onyame Allaah ɔno neye Awurade ɔɔɛfoɔ hene ɔno neye baako pe deɛ ɔɔɛɔ nenkoa akwɔntabuo atamoadɔ ɛwɔ emmere a yɛɔyɛni obiara afiri adakamina mo na ɔma obiara akɛtua ɛfa deɛ wadi ɛfiri adɛpa mo anaase bonee mosoɔ mo,na deɛ ɔɔɛ di dwumadi pa na ɔye ɔgyedienii na ɔho adom a atimtim ɛna deɛ wayɛ kaafiriya ɛna wadi dwumadie bone ɛne ɔho asodwie kɛsie ɛwɔ awiɛye da atamoadɔ, Na deɛ wahyɛma Onyame ɔkrɔnkɔ ɔkɛsie nokore bohɛ ɛne nahunumobrɔ ɛne nenyansa ɛfa nabudeɛ ɛne ɔnye saa wiase yi mo dwumadie ɛɔɛ ɛna ɛɔɛ mmienu no aye ama no akɛtua ɛne akwɔntabuo ɛne nhyira; ɛkwɔpim se ɔɔɛmani ahwe dwumadie pa na aye nenhyira ɛna ɔɔɛbone neɛ ɛne ɔsisifoɔ ɛne ɔtaenii awiɛye ɔtae ne asisie; ɛna nokore saa ɛnhyihyɛye adase ɛbi mo ne no ntem aware na nokware Onyame aso bi ahwe dodoɔ ngyinasoɔ ɛkyire se ɛwuo yaniye ye nokware nnaa nnim ɛwɔ so, Onyame kɛsie akase:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ
الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ [فصلت: 39]

{efiri Me sankyireni nom bi no na wo hunu asaase ehoo mo,nase nasani nsuo ego so na emo abeye agyensuo no ameni,Na nokore dee wama omo nkwa no sedee etie biara obema awufo nkwa, nokore owo no owo tumi wo biribiara so nhyihyeyee..} [Suura Fussilat: 39]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ [الحج: 5]

{Oh Onipa eii se mo gye akyinnye wo owusore da no ho a, esipi se ye boo mo firi dotee mu san firi nkwaboa mu san firi mogyafua mu san firi nam a ahyema ne dee atosene mu sedee yebe da yen tumi adi akyere mo, Na ye nee yepe ka awodee no mu kopim bere patee bi, Afae na y'ayi mo apue abofra na mo aduru mo mmerante bere, na ye kum mo mu bi, na binom nso anyin kopim nkokorabere a onnim nee na onim dada no, Na wo behu Asase se awo hwee nni so na se yeto nsuo gu so a na aposo ma emu noobaee ne nua a Onipa anigye ho nyina ara repuepue..} [Suura Hajji:5]

Na wakaikai ye nokore ewo saa aaya yi mmiensa engyinaso adwene mo a ekyire efa ewuo yaniye owo neye:

1- Nokore Onyame ɔno neɔɔ nipa kanii nfitiasie efiri netee mo na deɛ wabɔ no efiri netee mo ene ɔno neho tumi se ode no ebeba nkwa mo ewɔ mmerɛ a wɔye netee.

2- Nokware deɛ ɔɔɔ no nipa efiri anubaye nsuo ɔɔɔ tumi se ode nipa ebeba nkwa mo ewɔ newuo akyi.

3- Nokware deɛ ɔmaa asaase nkwa efa nsuo a etɔ wo newuo akyi enee ɔɔɔ tumi se ɔbema nipa nkwa ewɔ newuo akyi ena saa aaya yi mo ekyire engyinasoɔ kesie efa quraan tumi enkyirekyire, senna saa aaya yi aka nsenkyerene pii abom - eno na enye deɛ eware tintii- mmiensa adwene mo ngyinasoɔ ngyinasoɔ pefee efa asembosa kesie ho. Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104]

{ " edaa yebobobo esoro etise sedee yebobo atworo nwoma,ye de mo ebeba sedee yebɔɔ mo kanii nfitiasie,eye yebohye a eda ye so,Nokware ye na ye dwumadifo..} [Suura Anbiya: 104]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: 78-79]

{ ena wamaye nfatuhɔ nsesoɔ enanso newirefi sedee yabo no, Na ɔkase whae na bema kasai yi nkwa ewɔ abraa afenfem muhɔmuhɔ (78) Kase ɔbemanɔ nkwa deɛ ɔmanɔ ebaaye kanii ena ɔno no ɔye nimdienii ewɔ nabodeɛ so nyinara..} [Suura Yaasiin :78-79]

Na Onyame krōnkōnii Nō akasε:

﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَ السَّمَاءَ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ
ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَلْنَا ﴿٣٢﴾﴾
[النازعات: 27-32]

{ Senti moƵ na mo demo den abodeε yie anaase esoro nbɔye mo (27) ɔpegyaa nenkatasuo na wayε no pεpεpε (28) εna wakata na nadwo so εna wama nehae apeye (29) εna asaase εwɔ abraa saa akyi nɔ wama nɔ atire adaho pae (30) εna waye afiri mo nensuo ene neduane ahabae (31) εna apepɔ ye de aba atintim so (32).[Suura Naaziat: 27 - 32.]

Na wama nokore ada ho pefεε se eyε nipa nbɔye enye adee a eyε den efa efiri esoro nsu ene asaase ene deε εwom nyinara eden da,Na tumi wura ɔwɔ tumi εwɔ esoro nsu ne asaase tumi bre biara nnim εwɔ se ɔde nipa εbeba biom mmienu no mo.

13. Onyame krɔnkko kesie ɛna boɔ Adam ɛfiri netee mo ɛna ɔye nasefoɔ dodoɔ entoatoaso ɔno akyi,Na nipa nom nyinara ɛwo wɔnnom ase ye krɔ ɛna yenni nipa bi a ɔdimɔ ɛsini nipa bi anaase ɛdom bi ɛwo ɛdom bi so agye ɛfa deɛ ɔsro Nyame.

Onyame krɔnkko kesie ɛna boɔ Adam ɛfiri netee mo ɛna ɔye nasefoɔ dodoɔ entoatoaso ɔno akyi,Na nipa nom nyinara ɛwo wɔnnom ase ye krɔ ɛna yenni nipa bi a ɔdimɔ ɛsini nipa bi anaase ɛdom bi ɛwo ɛdom bi so agye ɛfa deɛ ɔsro Nyame:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]

{ Oh eye mo nipa nom yen yabo mo ɛfiri berima ene ɔbaa ɛna ye ye mo ɔmae ene abusua sɛdeɛ mɔhunu mɔho,Na nokware deɛ ɔde mo ɛfiri mo mo ɛneye deɛ ɔsro Nyame, Na nakore Onyame neye nimdien mo nimdienii.} (Suura Hujiraat: 13)

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر: 11]

{ɛna Onyame abɔmo afiri netee mo ɛnoakyi ɛfiri anɔbaye nsuo ɛnoakyi na ɔye mo awarefoɔ,ɛneye adeɛ ɔbaa ɛbefa yensei anaase ɛbewo agye ɛfa nenimdie, ɛna ɛneye adeɛ

nenfie ebekwo so anaase esobeti agye ewo nwoma mo, Na nokware saa no ewo Onyame ho eemeɛ.} [Suura Faatir: 11]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيََكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَقَّأُ مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾﴾ [غافر: 67]

{ɔno neye deɛ ɔboɔ efiri nateɛ mo enoakyi moɔfiri ahɔbaye nsuo mo enoakyi moɔfirii mogyatua mo enoakyi ɔyeɛ mo abofra enoakyi sɛdeɛ mo beyeni eden yie enoakyi sɛdeɛ mo bedani adoru moɔyeni nfiɛ so, ena efiri mo mo deɛ ɔbewu afiri saa so, enanso sɛdeɛ mo yeni adoru moɔnfiɛ yaka atoho ena sɛdie etie biara moɔbe dwene ho.} [Suura :67]

ena Onyame kesie aka no pɛfɛɛ mo sɛ nokore Issa jesusu nboɔye mo efa ne nsem a ɔka sɛ adekɔ nyɔho na ayehɔ,etise sɛdeɛ yabo Adam afiri dɔteɛ mo efa Onyame dwumadie, Onyame kesie nɔ akasɛ:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۗ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾﴾ [آل عمران: 59]

{ Nokore Issa"Jesus" nsesoɔ ewo Onyame ho etise Ada nsesoɔ, yabo afiri neteɛ mo enoakyi me kakyire nɔ sɛ ye ho ena ɔyeɛ ho.} [Suuratu Al-Imrana 59]

Adi animokae efa deɛ madikae aka ewo kasa mo a etoaso (2) no mo sɛ nokore akomhyani Onyame asomdwie nka no

adanide se nipa nom ye baako enye adee efa se obi edemo
eseni obi animuoyam mo agye dee Osro Nyame.

14. ena nipa biara yawo no nemmerε nom.

ena nipa biara yawo no nemmerε nom, Onyame kesie no akase:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

{ Na mɔntimtim mɔ animuoyam anim εmma εsom nokore, Onyame emmerε deε ye nipa emmerε wɔso, enye adeε a εsesa εfa Onyame nbɔye mo, Saa wae neye nokore ntimtimye εsom, Nanso nipa dodɔɔ nnim.} [Suura Ruum:30]

Na saa nkramosom yi ye Abraham Onyame dɔfo kwan Nyame nhyira nka no:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123]

{ εnoakyi ena yayee yekyire ayiyεdie εkyire wo se wo be fa Abraham εkwan so tineε nokore so, ena enye adeε ɔye bosomsom nee.} [Suura Nahl: 123]

ena Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: [[ɔbiara nneho a ye bewo no agye se ye wo no εnkramo kwan mu na nawofoɔ nom εbeyε no jewnee anaase kristo nee anaase majoose nee sεdeε aboa εwo aboa enti mo nya fofrɔ a εnfata εwɔ mmoa no mu]]εnoakyi Abaa Hurairah Onyame npenie nka no εkase:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

{ " Onyame kwanpa (Nkramosom) a Ɔboɔ Nipa too so, enye adee a ensesaye ewɔ Onyame abɔdeye mo, Saa wae neye nokore ntintimye esom, Nanso nipa dodoɔ ennim." } [Suura Ruum: 30]

Al-Buhari Nwoma 4775

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:[[eye adee a eye nokore me Awurade ahye me se menkyire mo nimdie bi dee mɔnnim efiri dee wakyire me menda mo saa wae nyinara agyapadie yaye no halaal ama akoa halaal akwama ho ena me Onyame mabo menkoa kroggee nokore mo nyinara ena nokore ɔmo bosam aba wɔnnom so asi ɔmo kwan afiri wɔnnom som mo ena waye no haraam ama ɔmo enye dee yaye no halaal akwama ama ɔmo ena wahye ɔmo efa bosom som ho eka meho ewɔ abraa mensanii tumi akwama biara wo so]]efiri Moslim ho 2865.

15. ena enye adee a z̄bi efiri nipa mo na yawo nɔ bonee mo bonee mo anaase adidie efa bone hɔ akyi:

ena enye adee a z̄bi efiri nipa mo na yawo nɔ bonee mo anaase adidie efa bone hɔ akyi ena Onyame kesie aboye amanie se Adam Onyame asomdwie nka nɔ ewɔ mmere z̄buu ne Nyame bohye ena wadii ye z̄ne neyire Hawa eye dua no ena z̄z̄z̄ nɔhɔ ena z̄sakraaye ena z̄serɛɛ Onyame bonefakye na Onyame eyekyire nɔ se z̄nka kasafua pa bi ena z̄kaaye ena Onyame egyee z̄mɔ nsakraye, Onyame kesie akase:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَلَعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [البقرة: 35-38]

{ ena ye kaase oh Adam wo ne woyire mɔntina algyanna yi mo na mɔndi deɛ mɔɔɛ biara na emom nma mɔnpenkye saa dua yi na makwɔka z̄sisifoɔ nom (35) ena bonsam edaada z̄mɔ efa hɔ ena yayeɛ wɔnnom efiri deɛ na z̄mɔ ewom, ena ye kaase mɔnsinfiri mo mɔmɔ mɔmɔ ebeye atanfɔ, ena ena mɔho ewɔ asaase mo saa ahɔtom ekwɔɔpim emmere bi (36) ena z̄de kasafɔɔ bi emaa z̄mɔ a efiri z̄mɔ Awurade ho na Onyame egyee z̄mɔ nsakraye ye so, Nokore z̄nɔ neye nsakraye Hene z̄deɛfoɔ (37) Ye kaase mɔnsi nfiri mo nyinara, Na se mmere biara ebɛba mɔnkyeɛ tineɛ efiri meho na deɛ z̄ɛ di tineɛ akyi na ehoo biara nka nɔ ena z̄mɔ nkwo akoma seiyye mo (38).} [Suura Baqara: 35-38]

ena mmere a Onyame egyee Adam nsakraye Onyame asomdwie nka nɔ wankwɔ bonee mo so biom ena efiri nasefoɔ mo so ɔmɔ ndi adidie bone ewɔ emmere a ɔmɔ ebesakra na yagye so ena afapim nokware onipa ɔnkuta bone mo adeso akyi, Onyame akase:

﴿فَلَا عِزَّ لِلَّهِ أَبِغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾
[الأنعام: 164]

{ enye adee a kiraa biara eɓenya deɛ ɔye agye deɛ waye, ena enye adee a ɔbi ebesoa obi bone so, enoaky mɔ Awurade nkye na mɔbekwɔ na wabɔ mɔ amanie efa deɛ na mowom eɛdi ho akyinie } [Suura An'aam:164.]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾ [الإسراء: 15]

{Dee yatini nɔ na nokware mo waya tineɛ efa nekiraa hɔ, ena deɛ wayira na nokore mo wayira wɔso, ena enye adee a ɔbi ebesoa ɔbi dwumadie fofrɔ da, ena enye adee a yeɓetwi obi aso agye yasoma asomanii ama nɔ} [Suura Israail :15]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُمُنْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلْنَهَا ۗ وَأَلْوُ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [فاطر: 18]

{ena enye adee a ɔbi ebesoa obi fofrɔ dwumadie, enase wofre adeden emuodo ewɔ nekutasoa mo enye ade a

ɔbɛkutam afiri hɔ koraa ene sankã ɔye nabusua a obɛɛn, Nokorɛ deɛ ɛwɔ ho nese wobɛbokwɔkwɔ ama deɛ ɔsro ne Awurade wɔ nsomaye awinta mo ɛna ɔtɪntɪm ɛfre Nyame salat, ɛna deɛ ɔbeti nehɔ na nkware wati nekɪraa hɔ,ɛna Onyame ho na ye sankwɔbiya.} [Suura Faatir: 18]

16. ɛna butae a ɛfiri nipa nbɔye mo ɛye: Onyame ɛsom krɔ pɛ:

ɛna butae a ɛwɔ nipa nbɔye mo ye: Onyame ɛsom krɔpɛ, Onyame kɛsie akase:

﴿وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]

{ ɛna ɛnye adeɛ a yabɔ asaasebɔadensi"jinni" ene nipa saakwa agye ɛfa sɛ ɔmɔ ɛbesom me.} [Suura Zaariyaat: 56]

17. Al-Islam ahyɛ nipa animuoyam akronɔ - mɛɛɪma ene mmaa- ɛna ɔde ɔbiara adesoadie kyɛfa atwɪrɛnɔ wɔ ɛnyiyemo nyɪnara ene nedwumadie mo ɛne nedanidani mo ɛna wasoa nɔ adesoadeɛ ɛkyɪrɛ dwumadie ɛha kɪraa anaasɛ ɛhao wɔ afɔfrɔ so.

Al-Islaam ahyɛ nipa animuoyam akronnɔ -mɛɛɪma ene mmaa- Na Onyame kɛsie wabɔ nipa nipadaseni sɛdeɛ ɔbeye nsianaamo ɛwɔ wiase mo,Onyame kɛsie akase:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾ [البقرة: 30]

{ ɛna kae wɔ mmerɛ a wo Awurade ɛkakyɪrɛɛ asorobofos sɛ Me nokorɛ maya wɔ asaase mo nsianaamo.} [Suura Baqara:30]

ena saa animuoyam yi ahyema ama Adam asenii biara, Onyame kesie akase:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]

{ena nokware mo yahye nipa Adam asenii animuoyam akrono ena yama omo tumi so ewo asaase ene eponsuo ena wama omo agyapadie efiri adapa mo nyinara ena yama omo adom animuoyam wo dodo mo efiridee yabo mo animuoyam adom mo.} [Suura Israail:70]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]

{ Na nokore mo yabo nipa wo nfo ni esu fexefe mo.} [Suura Tiin:4]

ena Onyame aye no akyirewadee ama nipa se obeye neho kitua akyiredie anaase efa se ye bsesom no anaase ye bedi nakyi efiri Onyame akyi, Onyame aka se:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 165-166]

{ena efiri nipa nom bi dee omo afa adesom bebere wo Onyame akyi wonnom edo omo epe Nyame, ena dee omo ayagyidie omo Onyame do eden yie, ena sanko omo agyediefow no ebefunu dee ye de ebeye osisiefow ewo emmera a ye betwi omo asu nokore ahuoden eho Onyame

nyinara, ena nokore Onyame asutwie eden paa eyie,ewo mmere a wɔ agyae deɛ efata se wɔ ede ekyire afiri akyiredefoɔ ena wɔ ahunu asutwie enam se wɔ agyai engyinasoɔ.} [Suura Baqara:165- 166]

Na Onyame Allaah wɔkesie aka pefee mo se nokware nahenie ahyema ama nɔ atamoda:

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا اَحْزُنْ صَدَدَتْكُمْ عَنِ الْهَدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَامُرُوْنَآ اَنْ تَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُٓ اَنْدَادًا وَّاسْرُوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾﴾ [سبأ: 32-33]

{ Deɛ wɔ ye akesisemfoɔ no akaakyire deɛ wɔ ye mmere asenti yaye mɔ afiri wɔ kwan tineɛ ewo mmere a wɔ aba, na emom mɔye odeboniefɔ (32) ena deɛ wɔ emmere no ekakyireɛ deɛ wɔ ye akesisemfoɔ nom se na emom anadwo ne adekyee pɔɔ bone ewo emmere a moɔ hye ye se ye beye kaafiriya efa Onyame hɔ ena yeyee nɔ adesom dodoo,ena wɔ enoɔ wɔ hɔ nsumaye mo wɔ emmere a wɔ ehunu asotwie ena ye de sɔnkwoɔnsɔnkwoɔ etuu wɔ ekwɔɔn hɔ deɛ wɔ ye kaafirifoɔ nɔ, asenti wɔ enyaa wɔ aketua anaa agye deɛ wɔ eyeyee (33).} [Suura: 32 - 33]

ena deɛ wahye Onyame bohyeye ma wɔkɔnkɔnii wɔkesie atamoda eda wɔ ebekuta wɔnnom frɛ ene wɔ kandifoɔ ayira adesoadeɛ ene adesoadeɛ efa deɛ wɔ ayira wɔnnom wɔ abraa nimdie biara enim,Onyame kesie akase:

﴿لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾﴾ [النحل: 25]

{"εωϭ wϭnnom dwumadie εsoa εmua atamoada,εna εfiri dwumadie εsoa εfa deε ϭmϭ ayira wϭnnom wϭ abraa nimdie biara ennim, asenti εnyε bone fii εfa dwumadie soa.} [Suura Nahl: 25]

εna Islaam εde atwire εfa nipa adesoadie mua εwϭ wiase ne awieyε da εna adesoadeε εdemo deε Islaam de atwire εna wadanidi akyire nipa nom Onyame hyefa εwϭ nipa so εna nipa hyefa a εwϭ Onyame so.Na hadiis a εfiri Muaaz Onyame npenie nka nϭ akase: meyε ϭkomhyani adanfϭ Onyame asomdwie nka nϭ na wakase: << Oh εyε Muaaz >> Mekaase : metiewo wotipaneε εnoakyi ϭkaase nensesoϭ mmiensa: << Senti wonim adeε a εyε Onyame hyefa wϭ nenkoa so>> εna megyeeso se: dεεbi ϭkaase:<< Onyame hyefa εwϭ nenkoa so ne se ϭbesom nϭ εna ϭnyε nϭ npatahϭ abosomsom hϭ koraa>> εnoakyi εna ye mmerε na wakaase: << Oh Muaaz >> mekaase : megye woso εna tipa newo wakase: " senti wonnim deε ye akoa hyefa εwϭ Onyame so εnase ϭdi saa dwumadie yi: εnyε adeε a metwi ϭmϭ asu >>Sahiihul Bukhaari (6840)

εna Islaam εde atwire εfa nipa neka hyefa εne nabusua εne nagyapadie εne nanimuoyam εkahoNa ϭkomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Na nokore Onyame ayεnϭ akyirewadie ama mϭ εfa mϭ mogya εne mϭ animuoyam saa yi wϭ mϭ bosomi yi saa wae wϭ mϭkrϭm saa yi mo>>Sahiihul Bukhaari (6501)

Na nokore ϭkomhyani Onyame asomdwie nka nϭ daworobo εfa saa bohyyε kecie εwϭ hajjatul wadaa εda deε

nipa dodoɔ ebaaye efiri waha apim ewɔ sahaabafoɔ mo ena ɔtintim saa asekyire yi ena ɔhyeeden wɔso wɔ aboa ekum eda ewɔ hajjatul wadaa ho.ena Islaam aye adesoadeɛ ata nipadane so efa biribiara mo enyeyemo ene nedwumadie ene nedanidaniye mo,Onyame kesie akase:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبِيرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: 13]

{ ena nipa biara yabɔnɔ atinasie buribiara so a etwirenɔ wɔ nekwaɔn ho,ena yebeyi ama nɔ atamoadaa nwoma a ɔbehyia no na yapite na yakakyire nɔ se kinkae wo nwoma nafabu wohɔ atɛn ende edayi.} [Suura Israail:13]

Asekyire efa deɛ ɔyɛɛɛ efiri nedwumadie mo ewɔ adepa mo anaa bone mo na Onyame ayenɔ atinasie amanɔ ntiranɔ wɔ obi fofrɔ so na enye adeɛ ye obi dwumadie ebeɔunɔ atɛnbuo ena yenbu obi atɛn wɔ naadwuma so ,ena Onyame kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]

{ Oh eyɛ moɔ nipa nom nokware mɔ ho abenedie mo ekwɔpim se mɔbehyia mɔ awurade wɔ bre mo.} [Suura Inshiqaaq: 6]

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

{ Dee ɔbe di dwumadie pa ɔdi ma nekiraa, ena dee ɔbe di dwumadie bone eɗa neso, ena enye adee a wo Awurade ye ɔsisifoɔ wɔ nenkoa so..} [Suura Fussilat: 46]

ena Islaam ekuta nipa adesoadee ekyire dwumadie a ebeha efa kiraa ho anaase ebeha ɔbi fofrɔ nom, Onyame akase:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْثًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾﴾ [النساء: 111]

{ena dee ɔbedi dwumadie bone na nokore ɔdi dwumadie no ema nehɔ, ena eye adea Onyame ye nimdienii yansawura } [Suura Nisai: 111]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [المائدة: 32]

{efiri enam senti ena yatworɔ wɔ banii israaeel saa yi se nokore dee ɔbekum kiraa bi enye kiraa bi so anaase ɔbe ye asesesee wɔ asaase so na nokore ɔtise dee wakum nipa nyinara ena dee ɔbema nkwa na nokore mo ɔtise dee wama nipa nyinara nkwa.} [Suura Maaida:32]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nma mɔnkum kiraa bonee so agye se ɔno no wɔ banii Adam twireye a eɗikae efiri nemogya kagyua efise

nokware ɔɔ nɔ nadikae deɛ watwa ekum ekwan>>Muslim Nwoma mo (5150).

18. Al-Islaam aye berima ene ɔbaa adase ɔfiri wɔ dwumadie mo ene adesoadeɛ mo ene aketua ene nhyira.

Al-Islaam aye berima ene ɔbaa adase ɔfiri wɔ dwumadie mo ene adesoadeɛ mo ene aketua ene nhyira, Onyame kesie aka sɛ:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124]

{ " ena deɛ ɔbe di dwumadie bi efiri adepa mo eye efiri berima anaase ɔbaa ena ɔye gyedienii ene ɔɔ saa yi na ɔɔ ye bewura algyannah mo ena enye adeɛ a ye besisi wɔnnon kitikiti koraa.} [Suura Nisaa:124]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]

{ Deɛ ɔbe di dwumadie pa efiri mberima mo anaase emmaa mo ena ɔɔ nɔ eye ɔgyedienii ene yebema nɔ nkwa a ye nkwa pa fe, ena yebema ɔɔ aketua a eye wɔnnon efa.} [Suura Nahl: 97]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْتَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ [غافر: 40]

{ Dee obedi dwumadie bone na onya aketua biara agye nensesoo, ena dee obedi dwumadie pa efiri mberima mo anaase mmaa mo na nye gyedienii na saa nkrufoo yi na omo ebewura algyannah mo,yema omo agyapadie ahoya ewom ewo abraa akmɔntabuo biara ennim.} [Suura Gaafir:40]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35]

{Nokore musliminii berima ene musliminii obaa ene gyedienii berima gyedienii obaa ene Nyamesrenii berima ene Nyamesronii obaa ena nekoredifoo berima ene nekoredinii obaa ena abotirenii berima ene abotirenii obaa ena ahɔbrasienii berima ene ahɔbrasienii obaa ena sirahayenii berima ene sirahanii obaa ena akyiwiayenii berima ene akyiwiayenii obaa ena adagya ahɔbaebonii berima ene adagya ahɔbaebonii obaa ena Onyame okaekaeyenii dodoo berima ene Onyame okaekaeyenii dodoo obaa,Onyame aboaboa bonefakye ama omo ene aketua kesie.} [Suura Ahzab:35]

19. Islaam ahye ɔbaa animuoyam ɛna wama ɔbaa ɛwɔ ɔberima dwumadie debre saa na ɔye nua so senti yabɔ ɔbaa atinasie ɛfa se berima ɛbeɔɔɔ akwɔhomabɔ nase wɔho tumi wɔho senti ɛfata akwɔhomabɔ ɛba ɛwɔ nagma ne nemaame wɔ neba so ɛwɔbase wayine ɛwɔhɔtumi ɛna ɛkunu ɛwɔ neyire so.

Islaam ɛnkyirɛkyire ɛfa ɔbaa ɛye berima nuaNa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nokore ɔbaa ye berima nua>>Yeyaaye ɛfiri Tirimizii ho (113)

ɛfiri Islaam animuoyam a ɛma ɔbaa se ɔyee nɔ nhye ɛmaa ɔbaa se yenɔɔɔ akwɔhɔma ɛna maame wɔ neba so nase ɔho tumi aNa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nsa ɛwɔ ɛsoro ɛde ɛma wo maame ɛne wonua baa ɛne nenua beɛma ɛnoakyi deɛ ɔbeɛwo ɛbeɛwo>>ɛfiri Imaam Ahmed hoɛna ɛnkyirɛkyire ɛbeba ɛwɔ awofɔɔ afamo Onyame ɛma ɛkwan ɛwɔ nwoma yi mo deɛ ɛtoaso (29).

ɛwɔ animuoyam a Islaam ahye ɛfa ɔbaa hɔ se kunu ɛma akwɔhɔma bɔ wɔ neyire so nase ɔwɔ hɔ tumi a ,Onyame akase:

﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]

{ɛfa deɛ ɔbetumi abɔhɔ akwɔhɔma ɛfiri nahɔɔden mo,ɛna deɛ ɔwɔ hɔ tumi agyapadie ɛne ɔnɔɔ akwɔhɔma ɛfiri deɛ Onyame ayenɔ adom, Onyame anye antu kiraa bi so ɛfa deɛ

ontumi agye deε ye de amano, Na sεdeε etie biara dendeede akyi Onyame εma no aye mmerε mmerε} [Suura Talaq:7]

εna yabosaa okomhyani Onyame asomdwie nka no abranteε bi: deε ben adeε neye obaa kyefa wε nekunu so? okaase: << manε aduane sεdeε wo wodidi εna franco ntoma sεdeε wofra ntoma εna nbunε nanim anaase ndede natem>>εfiri Imaam Ahmed hoεna somafoε aka Onyame asomdwie nka no adanide mmaa hyefa nom bi εwo kunu nom so:<< εna wεnnom hyefa agyapadie ene εmo noamahye εda mεso wε kwan pa so>>Musilimu NhomaNa Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< εyεma εdasane bone sε n'anibesa deε εma no deε εbe di>>εfiri Imaam Ahmed hoεna Khattaabii akase:(εfa saa kasa yi: " deε yeεma nε aduane" εpe εfiri nentina mo aduane ene asekyire etise εno nokore wakase εfa sadaqa ye: nma sadaqa εfa deε enye adom animuoyam εma εbi aduane enye wo abusua abosa wεho nhyira;na adani bone saa so εwo abraa wo nε wadani εhao ama εmo)εna εfiri Islaam animuoyam εma εbaa nese εfata akwεhεma εma εbaa wε nagya so.Onyame kesie akase:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ﴾ [البقرة: 233]

{ εna awofεε nom nεma wεnnom ba nom nufεε nfiε mmienu mua, εde ma deε εpe sε εhyεno εma nufεε no,εna εfa nedintεε ene naduanedie ene nataade hyε mo εwo kwan pa so." [Suura Baqara:233]

Na Onyame adanide se nokware agya a yawo eba amanɔ ɔnɔ na se ɔmanɔ aduane ene nadaade hyemo ewɔ kwan pa so ena Onyame akase:

﴿... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...﴾ [الطلاق: 6]

{ Na se wɔnnom ma wɔn nufɔɔ a, ene mɔnfa ɔmɔ kyefa akatua emma wɔnnom.} [Suura Talaq:6]

Na Onyame ayenɔ nhye nhyuira ema akwɔdaa nufɔɔ ema ewɔ agya so;Na wakyire efa wɔ agya ema neba aduane ena eba so efra ɔberima ene ɔbaa ewɔ hadiis yi ekyire wɔ nhye aduane eye ema neyire ena eba wɔ agya so,Na hadiis yi yeya efiri Aisha ho Onyame npenie nka nɔ: Nokware Hindan ekakyire ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ: Nokore eye Abaa Sufyaan ɔye abrantee a pɛpɛeyie nekasyie eden na mepɛse mɛye nesika mo ɔkaase:<< Ye deɛ ebɛsu wo ene womma nom wɔ kwanpa so >>efiri Bukhaari hoena wadanide ɔkomhyani animuoyam adom akwɔhɔmabɔ eba ene nuama nom na wakase Onyame asomdwie nka nɔ:<< Deɛ ɔbetit ahwe nemma maayowa nom mmienu anaase mmiensa anaase nuanom mmaa mmienu anaase mmiensa nuammaa ekwɔpimse edaadie anaase ɔwuuye ɔso ayedee a me ne nɔ nyinara etise seyi,ena ɔkyireɛ nensasoa akyirekwan ene nsa adentem tentee>>Silsilatu Sahiha 296

20. ena ewuo enye adee a esa koraa deebi da na emom eye ensesaye efiri edae fofro mo ekwo edae aketua mo ena ewuo ede honam mo adanidani ena nkwa ene ewuo nkwa ede apaerpaye ntitimo wo honam mo enoakyi na asani awura mo so biom ewo abraa yeyani no atamoadada ena enye adee a nkwa ebekwo beebiara so biom ewo ewuo akyi so biom ewo honam mo ena nkwo honam fofro mo so bi.

ewuo enye adee a eno neye awieye koraa, Onyame akase:

﴿فَلْيَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾^(١١)
[السجدة: 11]

{ Kase ukum mo owuo asorobofow dee ye de atwireno moso enoakyi mo wura Awurade nkye neye mo sankwobiya.} [Suura Sajida:11]

ewuo ede honam mo adanidani ena nkwa ene ewuo nkwa ede apaerpaye ntitimo wo honam mo enoakyi na asani awura mo so biom ewo abraa yeyani no atamoadada, Onyame kesie akase:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٤٢)
[الزمر: 42]

{ Onyame ukum kiraa nom wo abraa ewo ewuo mo ena dee omoo nwuye ewo omoo ndamo, na wakuta dee yanye ewuo nhyehiyee ewo nesu na soma fofro ewo emmere a yaka din atuhoo, Nokore ewo saa yi eye aaya sankyireni ede ma nkrufow a omoo edwene.} [Suura Zumar:42]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nokore nase yegyɛ nkwa a eniwa ede akyire >>efiri Moslim ho 920. ewuo akyi nipa ekwɔ ewɔ dwumadie edae wɔ aketua edae mo,Onyame akase:

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ وَيَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: 4]

{Nenkyɛ neyɛ mɔ nyinara sankwɔbɛya, ena Onyame bɔhyeyɛ yɛ nokware,Nokore ɔnɔ nekɛyɛɛ abɔadeɛ ahyaseɛ enoakɛyɛ ɔsani de nɔ ebɛba sɛdeɛ obɛma deɛ ɔmɔ ayagyedie ena ɔmɔ adi dwumadie pa akahɔ aketua ewɔ nokore pɛpɛɛɛ mo, ena deɛ ɔmɔ ayɛkaafiriya no wɔnnom ho nsuo num efiri hyehyeehye mo ene asutwie yayaaya efa deɛ na ɔmɔ yɛ eyɛ kaafiriya bone.} [Suura Yunus:4]

enyɛ adeɛ nkwa esani kwɔ wɔ honam mo ewɔ newuo akyi so biom ena enyɛ adeɛ efɛ nensesɔɔ frɛ mo so biom ekɛyire wɔsu adwene enyɛ yansa ena yɛnya efa adansiedie efa saa akomhyafɔɔ gyedie yi Onyame asomdwie nka ɔmɔ.

21. Al - Islaam efre ekɔ gyedie so efa gyedie kesie afapim enɔ neye gyedie efa Onyame Allaah hɔ ene asoroboafɔ ene gyedie efa Onyame nwoma ebi ne attawora ene ingyeela ene zabuura - ansaana nsesaye ebaa mo- ene quraan ene gyedie efa akomhyafoɔ ene asomafɔ nyinara Onyame asomdwie nka wɔnnom ena wobeya gyedie ɔmɔ awieyenii ɔnɔ neye Mohammed Onyame somafɔ akomhyafoɔ awieye ene asomafɔ ena gyedie efa awieye eɗa'atamoadaa' ena yenhunu se wiase asetina mo nase enɔ neye awieye; sankaa wiase asetina mo ye saakwa ewɔ ho ena gyedie efa hyebre ene enhyehyeye

Al- Islaam efre kwɔ wɔ gyedie mo efa afapim gyedie kesie dee akomhyafoɔ ene asomafɔ nyinara bɔɔ ho dawubɔ **Onyame asomdwie nka** ɔmɔ, enɔ neye: edekae:

Gyedie efa Onyame Allaah hɔ Awurade ɔbɔadee ɔhonya agyapadienii ɔdanidani nee ma saa wiase yi, ena nokore ɔnɔ nɔ neye krɔpe ɔfata ɔsom ena adee biara a ye besom no eye adefii seiyye atoru ene dee ye de bata no eye kyia esom agye nesom nkoaa ena esom nfata biribiara agye ɔnɔ nkro pe, Na nokware nkyirekyire adekae pefee ngyinasoɔ efa saa asembosa yi ho,etoaso wɔ nwoma kirataa (8).

ena Onyame krɔnkɔ akeka saa afapim kesie yi ewɔ aaya dodoɔ mo sorɔnkwɔ mo ewɔ quraan kesie mo ebi ne ɔkesie kasa:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: 285]

{Mɔnya gyedie emma asomafɔɔ efa deɛ yasani wɔmo efiri mɔ Awurade ho ene agyediefɔɔ nom, Mɔ nyinara mɔnya gyedie mma Onyame Allaah ene asoroboafɔɔ ene nenwoma ene nasomafɔɔ nma mɔ npraepae ɔmɔ ntem krɔ koraa,ena ɔmɔ ekase yate ye be desu, yehwihwe bonefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwɔbiya.} [Suura Baqara:285]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿* لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [البقرة: 177]

{ enye adepa nese wobɛ dani wanim ahwe apieye ene atɔye na emom adepa ne deɛ wayagyedie ama Onyame Allaah ene awieye eda ene asoroboafɔɔ ene nwoma ene akomhyafoɔ ena ɔmaa sika wɔ wodɔɔ nom deɛ ɔbɛɛwo ene agyanka ene ahiafoɔ ene akwantunii ene aserɛserɛni ene ɔkadefɔɔ ena ɔtintim Nyamefre su ena ɔma zaka ntutusuodu ena ɔmɔ a ɔmɔ hye bohye ema wɔ emmere a ɔmɔ afa bohye, ena ɔmɔ ho abotire wɔ ehao ehia mo ene ehao yariye mo ewɔ ehao no mmere mo, Saa nkrufɔɔ yi neye deɛ ɔmɔ ye nokorefoɔ,ena saa nkrufɔɔ yi ɔmɔ neye Nyamesrofoɔ. } [Suura Baqara: 177]

ena Onyame okesie erefre gyedie efa saa afapim ena wadanide se dee obeyi no kaafiriya na nokware wayira wo yiraa aware,Onyame kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

{ Oh eye moɔ dee maya gyedie ama Onyame Allaah ene nesomanii ene nenwoma dee yasoma ama nekomhyani ene dee yasani kanii ansaana,ena dee obeye kaafiriya efa Onyame Allaah ene nasoroboafɔ ene nenwoma ene nesomafoɔ ene awieye eɗa na nokware wayira yiraa aware.} [Suura Nisaai:136]

ewɔ hadiis a efa Umar Ibn Khattaab Onyame npenie nka no wakase:(ewɔ emmere bi na yenne somanee Onyame asomdwie nka no eteho nenkye ewɔ mmere nom na abranteɛ bi ewura a yemɔ nadaateɛ ye fitaa eyie,ena netiri nwee yetuntum eyie,ɔnse kwantunee ahyensodeɛ ena yemɔ biara ennim no ekwɔrimse otinaa okomhyani anim Onyame asomdwie nka no" na ɔde nekwɔtɔdwe ebeen wo nekwɔtɔdwe ena ɔde nensayem etuu wo nekwɔtɔdwe so ena okaaɛ: Oh Mohammed bome amanie efa Islamm ho na okomhyani Onyame asomdwie nka ekaase: && Islaam enese wobede adansie se ohenie biara nneho nokore mo agye Onyame Allaah nkoa ena Okomkyani Mohammed ye nesomanee Onyame asomdwie nka no ena na wagyina Nyamefre so ene zaka ye ene akyirewia ramadan ye ene hajji kwɔ Onyame fie nserahwe ewɔ mmere a wowɔ ho tumi ekwantwa>> ena okaaɛ: wakanokore: okaaɛ: na

ayeye whawha efa ho wabosa asani akase eye nokore ena wakaase: kyire me adee a eye Imaan "Gyedia" wakase: && enese wobeya gyedia ama Onyame Allaah

ene asoroboafon ene nenwoma ene nesomafon ene awieye eda ene gyedia efa nhyehyeye adapa mo anaase moson ehao mo && ena okaase: waka nokore okase: Na kyire me dee ben neye Al Ihsaan wakase: && Se wobesom Onyame etise nokware mo wo hunu No nase eye wo se wonhunu no ene on de e hunu wo && Musilimu Nwoma 8ewo saa hadiis yi mo jibreel ebaa osomafon Mohammed ho Onyame asomdwe nka no ena obosaa no efa Islaam som ndidiso "Maraatim" eno neye : Islaam ene Imaan ene Ihsaan na yee anu asomafon Mohammed Onyame asomdwe nka no enoakyi ena osomafon Mohammed eboo asuafon sahaabafon amanie se ye jibreel obaa se obekyire mo mosom. Na saa yi neye Onyame soma gyibireel agye afiri Onyame ho ena wakyire nipa efa somanee Mohammed Onyame asomdwe nka no akyire nipa nom ena nesahaabafon abohobae Onyame npenie nka om ena omoy so akyire ekyirenba.

Mmienu : Al- Iimaan efa Asoroboafon omoy ye wiase mo awinta Onyame abo wonnom ena waye omoy abodee soronkwo bi ena wadi dwumadie kesie bi atwire omoy ena efiri wonnom dwumadie nom mmeri ne Onyame esoma omoy ekwo asomafon ene akomhyafon nkye Onyame asomdwe nka omoy ena omoy penee ne asorobofuo gyebreel Onyame asomdwe nka no ena efiri dee ekyire wo efa

ayeedie yekyire yɛsani ɛma gyibreel ede ma asomafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmo,wakase ɔkesie:

﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: 2]

{ wasani ama asorobofoɔ wo ruuhi"gyibreel" efiri medwumadie mo ewo deɛ mepɛ efiri menkoa mo se ɔnbɔkwɔkwɔ se nokore mo se ɔno no adesom biara nneho nokware mo agye me na ɔmo ensro me.} [Suura Nahl: 2]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾﴾ [الشعراء: 192-196]

{ Na esipi se ye sanee saa nhoma yi firi abodeɛ nyina wura nkyen ɔbɔfoɔ gabela na de sanee y Esanee baa wo so (w'akuma) se wo be ka kɔkɔbɔfoɔ ho ε. Esanee wo tekyerema a eye Arab kasa mu ena nokware eho asem wo atentenbae adekaefoɔ nhoma mu } [Suura Shoaraa 196]

Mmiensa: Iimaan efa Onyame Nwoma etise attawora ene Ingyeela ene zabuura - ansaana ensesaye adanidani ebaa mo- ena quraan Onyame kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

{Oh eye moɔ deɛ maya gyedie ama Onyame Allaah ene nesomanii ene nenwoma deɛ yasoma ama nekomhyani ene deɛ yasani kanii ansaana,ena deɛ ɔbeye kaafiriya efa

Onyame Allaah ene nasoroboafɔ ene nenwoma ene nesomafɔ ene awieye eda na nokware wayira yiraa eware.} [Suuratun-Nisai: 136]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾﴾ [آل عمران: 3-4]

{ Yasani nwoma yi amawo wɔ nokore mo a ede adansie ema deɛ ede nanim ekae ena yasani attawora ene Ingyeela(3) efiri ansaana nipa ebeya tineɛ ena ye sanii nwoma furqaan"quraan",Nokore deɛ ɔmɔ ayekaafiriyaa efa Onyame aaya hɔ ɔmɔ ho asotwie dendeede,ena Onyame neye ɔtumifɔ ye bi tuaka daayɔnfɔ (4).} [Suura Aali-Imraan:3-4]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامِنٌ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: 285]

{Asomafɔ ama gyidie efa deɛ yasani wɔmo efiri mɔ Awurade ho ene agyediefɔ nom, Mɔ nyinara mɔnya gyedie nma Onyame Allaah ene asoroboafɔ ene nenwoma ene nasomafɔ nma mɔ nraepae ɔmɔ ntem krɔ koraa,ena ɔmɔ ekase yate ye be desu, yehwihwe bonefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwɔbiya} [Suura Baqara:285]

Na waka se:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 84]

{Kase yagye Onyame Allaah adi ene dee yasani wɔ yeso ene dee yasani ama wɔ Ibrahim ene Ismaail ene Is-haq ene Yaqub ene Asbaat ene dee ye de ama Musa ene Issa ene akomhyafɔɔ nɔ a ɔwɔ efiri Awurade nkye enye adee yepaepae etiti ɔwɔ krɔ entem ena ye ye muslimifɔɔ.} [Suuratu Al-Imrana 84]

enae: Gyedie efa akomhyafɔɔ ene asomafɔɔ nyinara Onyame asomdwie nka ɔwɔ ena efata gyedie ema ɔwɔ nyinara akomhyafɔɔ ene asomafɔɔ Onyame asomdwie nka ɔwɔ ena gyedie efa wɔnnom nyinara eye efiri Onyame ho ɔwɔ ebodaworo ekyire ɔwɔ edom eye Onyame somadee ene nesom ene nemmera, Onyame akase:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]

{"Mɔnkasa ye ya gyedie ama Onyame Allaah ene dee ɔsanii yeso ene dee yasani ama Ibrahim ene Ismail ene Is-haq ene Yaquub ene Asbaat ene dee ye de ama Musa ene Iissah ene dee ama akomhyafɔɔ efiri ɔwɔ Awurade ho enye adee ye paepae ɔwɔ entem krɔ koraa ena ye ye muslimifɔɔ emanɔ} [Suura Baqara:136]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285]

{Monyanya gyedie emma asomafow efa dee yasani wamo efiri mo Awurade ho ene agyediefow nom, Mo nyinara monya gyedie mma Onyame Allaah ene asoroboafow ene nenwoma ene nasomafow nma mo nraepae wmo ntem kro koraa,ena wmo ekase yate ye be desu, yehwihwe bonefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwobiya.} [Suura Baqara:285]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 84]

{“kasa se yenya gyedie ama Onyame Allaah ene dee yasane wo yeso ene dee yasani ama Ibrahim ene Ismail ene Is-haq ene Yaquub ene Yaquub mma ene dee ye de ama Musa ene Iissah ene dee ye de ama akomhyafow efiri wmo Awurade ho enye adee ye paepae wmo entem kro koraa ena ye ye muslimifow emanw.} [Suuratu Al-Imrana 84]

ena onya gyedie wo wannonm kaakyire won anosini,ono neye Mchwammad Onyame asomdwie nka no akomhyafow ne asomafow awieye Onyame asomdwie nka no,Onyame kesie akase:

﴿إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ آلِ تَيْبِينَ لَمَّا آتَيْنِيَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ [آل عمران: 81]

{ Kae emmere a Onayme egyee apam bohye efiri akomhyafoɔ ho ewɔ mmere a yema ma mɔ nwoma ene yansa adwene enaokyi ena somafoɔ nɔ ebaa mo nkyen na ɔde nokore ema deɛ eka mɔhɔ sedee mɔbegye atom efa hɔ,ena adase moɔ beboa nɔ,ɔkaase mɔ atimtimsu ena magye ewɔ saa su ntintimyesu,ena ɔmɔ ekaase yatimtimsu,wakaase ene mɔndi adansie se meka mɔhɔ wɔ adansedee nom } [Suuratu Al-Imrana 81]

Na Islaam ehye gyedie efa akomhyafoɔ ene asomafoɔ nyinara ena eye gyedie nhye efa neɛ twa wɔn toɔ,ɔnɔ ne somafoɔ Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ,Onyame ɔkesie akase:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿٦٨﴾ [المائدة: 68]

{ “ Kase oh eye nwomafoɔ monye twee ewɔ biribi be mo ekwɔpimse mɔbetimtim wɔ attawora ene Ingyeela ene deɛ yasani ama mɔ efiri mɔ Awurade ho ” } [Suura Maaida:68]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ [آل عمران: 64]

{Kase oh nwomafoɔ mɔnbra wɔ kasa baako pe enkyirekyire su ewɔ ye ne mɔntem se yensom ɔbiara

nokware mo agye Onyame Allaah ena yenye npataho nka woho koraa ena yenfa yemo yemo adesom bi efiri wo akyi, Nase omo ebrenkyi edani omo akye na monkase ye de adansie se nokore yeye muslimifo.} [Suuratu Al-Imrana 64]

ena dee obe twa okomhyani baako so nkontompo no,na nokore watwa akomhyafo ene asomafo nyinara so nkontompo Onyame asomdwe nka wonnom enam saa nti Onyame aka amanibo mo wo asotwie efa Nuh nkrufo Onyame asomdwe nka no:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105]

{ Nuh nkrufo edii no akyinie ator o efa nesoma.} [Shoara'a:105]

ena eye adee a yanim se Nuh Onyame asomdwe nka no enye adee a somafo bi adenanim ekae enoakyi nyinara, emmer e Nedom etwaa no so nkontompo no,na saa nniye yi (nkotompo ne atorosem) a won ka faa Nuh ho eye nkotomposem efa akomhyafo ene asomafo nyinara ho; efise nokore omo daworobo Nyamesem ye baako pe ena omo dadwene ye baakope.

enum: Gyedie efa awieye eda eno neye atamoada ewo wiasie nkwa mo awieye,Onyame ebeye asorobof o Israafiil Onyame asomdwe nka no se onhu abebe tutrubento asoma ewuo na obehu na obiara asoma awu agye dee Onyame epe,Onyame kesie akase:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [الزمر: 68]

{ ena yahu abenbɔno a ɔbiara ebesuma awu adee biara efiri wɔ ɔsoro nsu mo ene dee ewɔ asaase mo agye dee Onyame epe,enoakyi nayahu abenbɔ fofrɔ na eho ɔmo atenbuo asu eetwen.} [Suura Zumar:68]

enase yekum adee biara a ewɔ ɔsoro nsu mo ene dee wɔ asaase mo agye dee Onyame epe,Na Onyame ebebobo ɔsoro nsu ene asaase sɛdee ewɔ Onyame kasa yi mo:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾﴾ [الأنبياء: 104]

{ edaa yebebobo esoro etise sɛdee yebebɔ atworuye nwoma,ye de mo ebeba sɛdee yeboɔ mo kanii nfitiasie,eye yebohyeye,Nokware Me na medi me dwumadie.} [Suura Anbiya: 104]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾﴾ [الزمر: 67]

{ ena wɔn anye pɛpɛpɛ yɔ wɔ wɔn nsusuye a wɔ susu maa Nyame no mu, ena asaase nyinara ekuta nensam atamoadaa ene ɔsoro nsu yabubɔ ehye nensa nefa mo,ɔkrɔkɔnii ɔkesie efa dee moɔbeyɛ ntapahɔ ekanehɔ.} [Suura Zumar:67]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Onyame tumifoɔ ɔkesie ebebubɔ ɔsoro nsu

atamoad a enoakyi na ɔde nensa nifa akutam ɔmɔ enoakyi na wakase: Me na meye Ohene na akakabensemfɔ ɛwɔ henne? Akesesemfɔ ɛwɔ henne. enoakyi na wabubɔ asaase efa nensa bonkum so na enoakyi na wakase:Mena meye Ohene na akakabensemfɔ ɛwɔ henne? akesesemfɔ wɔ henne? >>ɛfiri Muslim ho.enoakyi na Onyame ahye asoroboafɔ amanɔ ahu abeen no na wahu prekwɔpe so biom na eho a na ɔmɔ asore ɛretwen,Onyame kesie akase:

﴿... ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

{.. enoakyi na wahu aben no so biom na eho ɔmɔ asore agyena ho ɛretwen } [Suura Zumar:68]

Nase Onyame ɛyani abodee na waboa wɔnnom anu wɔ akwɔntabuo mo,Onyame kesie akase:

﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكُمْ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: 44]

{ eda a asaase ɛbedwidwa apaepae wɔnnom su ntɛmɛm na saa eda no neye nbuabuano eda ɛye mmerɛ emaye..} [Suura Qaf:44]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

{ edaa wɔnnom eda ho pefee, ɛnye adee biribi bi ɛbewinta wɔ Onhyame ɛfiri wɔnnom mo koraa, efa saa eda yi wae naho ahenie tumi ndɛdae,ɛye Onyame Allaah nkoaa krɔpe na akum mo abremase.} [Suura Gaafir: 16]

ena ewo saa eda yi Onyame abebu nipa nyinara aten ena obiarā ɔye odebonene ɔbetwa asotwie ewo nebonee ho ama no, ena ɔbema nipa biara naketua efa deɛ ye ne dwumadie ho, Onyame kesie akase:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [غافر: 17]

{ Nde eda yi ye bema nipa biara naketua efa deɛ ɔyeye, enye adeɛ ye besisi obi nde dayi, Nokore Onyame nakwontabuo eye entemtem. } [Suura Gaafir:17]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 40]

{ Nokore Onyame ɔnsisi ɔbi kitua kitikiti netee, enase ɔye dii adepa a na waye no enbohoɔboho na ɔde ama deɛ ɔho ho nhyira kesie } [Suura Nisaai"40]

ena Onyame ɔkesie akase:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ ﴾ [الزلزلة: 8-7]

{ Na deɛ wadi dwumadie pa nseso kitikiti kitua yie ɔbehunu (7) ena deɛ wadi dwumadie bone kitikiti kitua yie ɔbehunu (8). } [Suura Zalzala: 7 - 8]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: 47]

{ ena ye de ensenee susu dwumadie ebetusu pɛpɛɛ ewo atamoada na enye adee a ye besisi kiraa bi koraa,ena se emodu etise aba efiri aba kitua paa mo ye de beba,ena esonebu maye efa atenbuo no } [Suura Anbiyaa:47]

ewuo nyaniye ene akwontabuo akyi ye aketua nhyira na deɛ wadi dwumadie pa ɔwɔ adom daanidaa mo deɛ ntwɔ ena deɛ wadi dwumadie bone mosoɔ ene kaafiriya ene ɔwɔ asotwie mo, Onyame kɛsie akasɛ:

﴿ الْمَلِكُ يُؤَمِّدُ لِلَّهِ يَخُحُّكُمْ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ التَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فاولتبيكلمهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاوليك لهم عذاب مهين ﴾ [الحج: 56-57]

{ Tumi Ahenie saa eɗa no eho Onyame Allaah, ɔbu wɔnnom ntem atenbuo,Na deɛ waya gyedie na wadi dwumadie pa akaho wɔ asorohemaamo algyanna adom mo(56 ena deɛ ɔmo ye kaafiriya ene akyiniedie mo efa yen aaya na saa nkrufoo yi nawo asotwie animguasie mo (57)).} [Suura Hajji:56-57]

ena yahunu se nokore wiase asitina mo sankɔ eno neye awieye; Nanka nentina mo ye adee a ewo ho saa ara ekwa soronkwɔ,Onyame kɛsie akasɛ:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: 115]

{Enti mo susu se yeɔɔ mo saa ara kwa na yen kyen na yensan nfa mo mma anaa } [Suura Al-Muuminuun:115]

Nsia: Gyedie efa enhyehyeye ene hyebre eno no efata nhye gyedie woho efa nokore Onyame nokware mo onim adee biara ewo ho ene dee aye ho ene dee ebeye ho ewo saa nabodee mo ena nokore Onyame atworo biribiara ansaana orebo esoro nsu ene asaase Onyame kesie akase:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]

{ena nenkye na ensumaye mo safoa eho enye adee a obi enim agye onim, ena onim dee ewo asaase mo ene eponso mo, ena dee ebeto ate afiri ahahabae mo agye onim anaase aba a ewo asaase sum mo anaase dee ye munu anaase dee awu agye ewo nwoma pefee mo.} [Suura An'aam:59.]

ena nokware mo Onyame atwaahyia wo biribiara nimdie mo Onyame kesie akase:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]

{Onyame Allaah naboo osoro nsu ena asaase so nensesoo osani nenhyehyeye ewo wonnom ntem sedee ebeye a mo behunu nokore Onyame newo tumi nhyehyeye wo biribiara so ena nokore Onyame nenimdie atwa biribiara ho ahyia.} [Suura Talak:12]

ena nokware mo Onyame enye adee biribi be esi wo saa abodee yi mo efiri nhyehyeye mo agye nokware dee Onyame epe ena nepe ena oboo abodee ena wagugu nengyenaso mo, Onyame kesie akase:

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 2]

{ Dee eye nedee ewo no esoro nsu ene asaase ena enye adee a ewo eba ena onne obiara a oka neho ewo nahenie mo ena onno nebowo biribiara ena oyee nenhyihyeyee ewo neso nhyihyeyee } [Suura Furqaan : 2]

onno naho dee wo yansa yene dee nipa ntwā neho nhyia, Onyame kesie akase:

﴿ حِكْمَهُ بِالْعِزَّةِ فَمَا تُغْنِ التُّذْرُوءَ ﴾ [القمر: 5]

{ " Yansa yine a epi, na enye adee eyee agyapadie ema okwokwobofoo. } [Suura Qamar:5]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الروم: 27]

{ ena onno neye adee ode abodee ebaaye enoakyi ode no ebeba biom ena emere ema no wosu ena onno neho nfatuho kesie a ewo osoro nsu ene asaase onno neye otumifoo ene yansawura. } [Suura Ruum: 27]

ena Onyame ede yansa atutu neho ena watudiin se yansawura, Onyame kesie akase:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18]

{ Onyankropon adi adanse se Onyame biara nni ho ofata osom wo nokware mu gye Onyankropon baako pe, Na

Abɔfoɔ ne nimdifoo nso di adanse, na nimdifoo gyena pintee wo perepere yo mu, Nyame biara nni ho a ofata som wo nokware mu gye Onyankropɔn baako nkunimdifoo ne onyansafo Nyame.} [AalIm'raan/18]

Olohun ti Ola Re ga si tun so ni Eni ti On fun wa ni ironipaAnabiEesa - ki olaOlohun ki o maaba a - wipeyooɔbaOlohunsoro ni ojoigbedidelenitiyoomaa so pe:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]

{Nase wo betwi som asu na nokore mo som ye wonkoa,nase wodebekye wannon a na nokware wo na woye otumifoo Yansawura.} [Suura Maaida:118]

ena Onyame kesie abo amanie efa Issa ho Onyame asomdwe nka no se nokore som no obekasa nipa ho atamoada prekwape hutubaye:

﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: 9]

{Oh eye wo Musa nokore eno no ye Me Onyame Allaah otumifoo Yansawura } [Suura Naml:9]

ena Quraan kesie ede atutu efa yansa na Onyame kesie akase:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ نُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: 1]

{Alif Laam Raa, nwoma yi a yansa aaya ewom,enoakyi yakyikyem a efiri eho nenkye yansawura nimdiewura.} [Suura Hud:1]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾﴾ [الإسراء: 39]

{Saa wayi naye deɛ efiri ayedeɛ ekyire ema wo efiri wo Awurade ho wɔ neyansa mo,nma wo nfa ɔbi nka Onyame ho adesom fofrɔ na yatu wo atu gyahannama eɣya mo abreasie ennuhu nkɔnim so.} [SuuratulIs'raah: 39]

22. ena akomhyafoɔ ye ahɔbaefoɔ Onyame asomdwie nka ɔmɔ ewɔ adee a ɔmɔ ebɔhɔ daworu efa Onyame kasa ena ɔmɔ ye ahɔbaebofoɔ efiri adee biara deɛ ene adwene ebɔbra anaase ebepɔ abɔdeɛ adwene mo pɛfɛɛ ena akomhyafoɔ wɔnnom na ye de atwire ɔmɔ efa daworubo Onyame ahyedeɛ efa nenkoa ene akomhyafoɔ ɔmɔ nne twee efiri ɔbɔadeɛ anaase ɔkrɔpɛ dwumadie mo; Na emom ɔmɔ ye nipa nom etise nipa nyinara na Onyame naye ɔmɔ yekyire ayedeɛ efa nesoma.

ena akomhyafoɔ ye ahɔbaebofoɔ Onyame asomdwie nka ɔmɔ efa deɛ ɔmɔ ebɔhɔ daworu efa Onyame kasa;efise nokore Onyame aye ɔmɔ abodeɛ mo enyemo sɛdeɛ ɔmɔ bebo Onyame asem hɔ daworu,Onyame kesie:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75]

{ Onyame ena aye afiri asorobofoɔ mo asomafɔɔ ena efiri nipa nom so,nokore Onyame nɛye teenii ene ehunu eniwa.} [Suura Hajji:75]

Na waka se:

﴿* إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 33]

{ Nokore Onyame na aye Adam ene Nuh ene Aali Ibrahim ene Imraana ewɔ adasanma mo } [Suura Al-Imrana :33.]

Na waka se:

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أُصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَالِمِ فَاخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾﴾ [الأعراف: 144]

{ Wakase Oh Musa nokore Me maye wo ewo nipa mo efa mesoma ene me kasa na kuta mo dee ye de amawo nedani efiri ndaasienii.} [Suura Aaraf:144]

ena asomafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmo ɔmo enim dee yesani sani ema ɔmo eye yekyire ayedee efiri Onyame ho ena asoroboafɔ so edehɔ adansie esani sani efa ayedee yekyire, Onyame kesie akase:

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَن أَرَادَ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يُسَلِّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ أَن قَدِ ابْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾﴾ [الجن: 26-28]

{ ensumaye mo nimdienii na enye adee a nensumaye mo edaade ekyire obi (26) Agye dee ɔpe wapene so ama no efiri asomafoɔ mo na nokore etwakwan efiri dee eho nanim ntem ene dee eho nenkye mo ɛretwe (27) Sedee ɔbehunu se nokore ɔbeboho daworu soma sem efiri nawurade ho ena dee eda nanim watwaho ahyia ena watworo biribiara ho ndidisoɔ mo (28).} [Suura Jinni: 26-28]

ena Onyame ahye ɔmo efa nesomaye asem daworubo Onyame kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [المائدة: 67]

{ Oh eye somafoɔ bɔdaworu efa dee yasani ama wo efiri wo Awurade ho, ena se wanye a na enye adee a wabo asem noho

daworu ene Onyame ebo wohobae afiri nipa ho,nokware Onyame ɔntine kaafiriya edom.} [Suura Maaida:67]

Na waka se:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 165]

{ Somafoɔ bi anuhɔbafɔɔ ene ɔkwɔkwɔbɔfɔɔ sɛdeɛ ebeyɛ a nipa mba enya engyinasɔɔ bi wɔ Onyame ho efiri akomhyafoɔ nɔ akyi,ena Onyame neyɛ ɔtumifoɔ yanswura.} [Suura Nisaai:165]

ena asomafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmɔ esro Onyame yie sro mo ene ɔmɔ esro nɔ na enyɛ adeɛ a ɔmɔ de biribi be ebeka nesomayɛ nom ena enyɛ adeɛ a ɔmɔ ebetibiso afiri mo,Onyame kesie akase:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الحاقة: 44-47]

{ Sanka wo sesa yen asem ensisayɛ mo nom bi (44) Nanka yɛ bɛsɔnemɔ afiri yensa nifa mo (45) enoakyi na yatiti apɔsa afiri nenkwɔntire mo (46) Na enyɛ adeɛ a mɔ mo bi ebetumi atwitwa agyeno koraa (47)} [Suura Haaqa:44 -47]

Ibn Kathir Onyame ahunomorɔ nka nɔ akase:(ɔkaseɛ erekase : { Sanka wo aka biribi wɔ yen asem mo a } Asekyirɛ : Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ sanko ɔyɛɛ sɛdeɛ ɔmɔ esusu sɛrɛmobɔ nsem atɔru etu yeso nom bi ena ɔde ekaa wɔ yensomayɛ nom anaase wotii so efiri mo anaase woka biribi ewom kitikiti efiri nkyɛ etise yen deɛ - ena enyɛ saa-nanka yaye efa wo asotwie ena efa saa yi ɔkaase:{ Nanka

yeƙuta εσω nemo εfiri nifa su } yakase: asiekyire se yebeye bi atuaka εfiri ye nifa su; εfise nokware ενω nω εyeden wo asotwie mo εna yakas: Nanka yebekuta asonemo afiri εfa menifa }Na waka se:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَال سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيَأْنِ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْعُيُوبَ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنۢ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾﴾ [المائدة: 116-117]

{ εna kae wo emmere a Onyame εrekase oh Issa mary ba senti wona wokakyireε εfa nipa nom se ωω εnsom wo ene womaame adesom mmieniu εfiri Onyame Allaah akyi,okaase woye ahotienii εnye adee a εfata se me meka adee bi a εnye nokore nase εye adee a makaa nokore mo wonnim,wonnim deε εωω makoma mo,εfise nokware mo wo na woye nsumaye mo nimdienii.εnye adee a maka biribi be akyire ωω agye deε wakyε me wωω,se ωω εnsom Onyame Allaah me Awurade ene ωω Awurade,εna meye ωdansinii wω wωnnom εωω emmere a mewω ωω mo,Na emmere a wopegyaa me ekwωω ωsoro mo na wona ωtwe ωω su,εna wo na ωye ωdansenii wω biribiara so..} [Suura Maaida: 116 - 117]

εfiri Onyame adom mo εma akomhyafω ene asomafω Onyame asomdwie nka nω nokore Onyame εtimtim ωω εfa ωω daworubo εωω mesomaye,Onyame kesie akase:

﴿إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرْنَاكَ بِعُضِّ الْهَتَاةِ بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: 54-56]

{ Wakase nokware mu mede Onyame ye m`adansinii na mo ndi adanseε se: nokore mu me matwi meho afiri deε mo ye nbataho abosomsom ho (54) εfiri mo abosom no ho,na mo bo εpobone wo mesu, mo nyinara na enoakyi emma mo ntwentwen so koraa (55) Nokore me mede meho atwire wo Onyame Allaah me Awurade ene omo Awurade na enye adeε εwo abodeε bi "daaba" agye omo no wagye efa nekyefa nokore me Awurade naho ekwan tineye troduu atimtim so.} [Suura Hud 54 - 56]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ حَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن تَبْتَئناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَادَفْتَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾ [الإسراء: 73-75]

{ ena sanko omo eyaaye a nanka omo ebeye nkyirekyire akyire wo wo deε yasani ama wo ye ayedeε se deε ebeye a wobeye yen nkyire kyire nti se ye deε, enanka omo efaa wo yeε atanfo (73) ena sanko enye adeε a yatimtim wo nanka nokware wodii omo asem akyi kakra (74) Nanka ye ma wo ekaa amanehunu nkwa wiasε mo ene amanehunu εwuo mo so ena enoakyi enye adeε wobeya wo yakyi aboafow bi (75).} [Suura Israa: 73 - 75]

ena saa aaya yi ene deε εde manim kae no eye εde adansie ena engyinasow efa se nokore adasanma Nyame nasanii quraan ebaaye; εfise nokore onon sanko onfiri Onyame ho

asomafow Məhwamməd Onyame asomdwie nka nɔ wɔ emmere a ɔwɔ ɛpɛɛɛ ɔfa ɔwɔ kasa nsesow nom bi nka Onyame kasa mo.ɛna Onyame ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔbo akomhyafow ɛne asomafow ɛbae ɛfiri nipa mo, Onyame kesie akasɛ:

﴿* يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [المائدة: 67]

{ Oh eye somafow bɔdaworu efa deɛ yasani ama wo ɛfiri wo Awurade ho, ɛna sɛ wanyɛ a na ɛnyɛ adeɛ a wabɔ asem nohɔ daworu ɛnɛ Onyame ɛbɔ wohɔbae afiri nipa hɔ, nokware Onyame ɔntine kaafiriya ɛdom } [Suura Maaida:67]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿* وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنِّي مَكْتُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مَأْمُورُونَ ﴿٧١﴾﴾ [يونس: 71]

{ ɛna kenkae ɛkyire ɔwɔ efa Nuh abakosɛm ɛwɔ emmere a ɔkakyirɛɛ nekrufoɔ sɛ oh menkrufoɔ nase moɔyɛ akɛsesɛm wɔ meso ɛnam medebre nti ɛne menkaekayɛ efa Onyame asem ɛnɛ Onyame kesie nɔ nkoa na me de mehɔ ɛtwire na mɔnka mɔhɔnbom ne mɔnhyehyeyɛ ɛne mabosom nom ɛnyɛ adeɛ mɔ dadwene hao ɛbebam ɛna ɛnoakyi mɔnyɛ deɛ mɔpɛ wɔ meso ɛna nma mɔntwɛn koraa. } [Suura Yunus:71]

ɛna Onyame kesie abo amanie efa Musa kasa Onyame asomdwie nka nɔ:

﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّنا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾﴾ [طه: 45-46]

{Wɔnnom mmienu ekaase oh yen Awurade yesro se ɔbeɔ yen asem anaase ɔbeye ahantae wɔ ye su - wakase nma mɔnsro,Nokware me meka mɔhɔ metie ehun} [Suura:45-46]

Na Onyame kesie adanede nokware mo se ɔhɔ nɔ ɔbebo asomafoɔ hɔ bae Onyame asomdwie nka ɔmɔ afiri wɔnnom atanfoɔ nom na enye adee ɔmɔ ebetumi de ehao biara aka ɔmɔ ena wabo amanie nokore ɔkrɔnkɔ ɔkesie se nokore ɔhɔ nɔ ɔbebo neyekhyire hɔ bae na yenfa bi nka hɔ ena yentiso efiri mo,Onyame kesie akase:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ [الحجر: 9]

{ Esipi se yen na yesanee nkaekae no, na esipi se yen na yɛbe bɔ ho ban } [Suura Al-Hujiraat:9]

ena akomhyafoɔ Onyame asomdwie nka wɔnnom ɔmɔ ye ahɔbaebofoɔ efiri adee biara a ɔmɔ esro adwene mo anasse abodee mo: Onyame kesie aka ahɔtee nsem efa nekomhyani Mohammed ho:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ ﴿٤﴾ [القلم: 4]

{"... ena nokware mo, wo wɔ subae pa edemo eyie..} [Suura Qalam:4]

ena waka so biom efa nehɔ:

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ [التكوير: 22]

{ ena enye adee mɔ yɔnkɔ nɔ ye edamfoɔ bɔɔɔmnee..} [Suura Takwir :22]

ena saa no ekorim se om̄ ebekuta adeso efa somaye no wo kwan pa so ekutam ena akomhyafō Onyame asomdwie nka w̄nnom etwire efa Onyame asem daworubo efa nenkoa enye adee om̄ wo biribi be koraa efiri soronkwo ob̄adee anaase okrope tumi mo na emom om̄ ye nipa etise nipa nom nyinara na Onyame yekyire neho w̄nnom so efa nesomaye nsem, Onyame kesie akase:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾
[إبراهيم: 11]

{W̄nnom asomaf̄ō nom akaakyire om̄ se yenye twee agye nipa etise mo na emom Onyame ayeye adom ewo dee ope mo efiri nenkoa mo, ena enye adee a ye de tumi bi ebere mo agye Onyame ere mo, ena eye Onyame nkoa na agyedief̄ō etwire} [Suura Ibraahim:11]

Na Onyame hyee osomaf̄ō Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se onka se:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: 110]

{Kase nokware mo meye nipa m̄nsesō na yekyire na yaye ema me na nokore dee oye mo Awurade neye Awurade krope, Na dee ope ohyia ne Awurade ene onde dwumadie pa ena nma no enye no npataye efa nawurade som krope.} [Suura Kahf:110]

23. ενα Islaam εφρε εκωα Onyame εsom κρωε ηα εφα εsom κεςιε αφapim ενω νεγε:Nyameφρε"Salat" δεε γε engyinaho ενε ενbumo ενε momabα ενε Onyame nkaekaye ενε nekrαn κεςιε ενε npaebo, ενα nipa εφρε salat mppe num εda biara,ενα γεba nesantee mo hianee ενε sikanee ενε ohene ενε debrenee ενε opeene wα salat santee baakope mo,ενα zaka γε entutusαdu γε εγε sika mo γε εφiri kakra mo - εwα ntintimγε emmere mo ενε nepenpensαα mo δεε Onyame ahyehγε atuhα- εγε εnhγε wα asikaφαα sika mo na αmα δε εbema ahiaφαα ενε δεε αmα εkahα,γεεeno mppe baako πε wα afim nom nyinara mo,ενα siyaam akyirewia γε εno νεγε: anu kuta wα aduane di mo wα ramadan bosomi awia mo, αtwe nehα apedeε ενε abotire γε,ενα hajji kwα εno νεγε:Onyame fie kwα dadwene wα makka animuoyam fie mo baako πε kwα wα wonfie mo nyinara εwα mmere a woho ηα tumi,ενα saa hajji yi εγε πεπεεπε εμα αbiara wα εho twe εφα nabodeε αkrαnkα,nipa ahodαα ενε εso soronkwo nyinara.

Islaam εrefre εκwα wα Onyame som εφα εsom κεςιε ενε εφα nakyi εφiri εsom mo ενα saa εsom κεςιε yi εγε adeε Onyame ayeno εnhγε wα akomhyaφαα su ενε asomaφαα Onyame asomdwie nka wαnnom ενα εsom a εdemo εαα νεγε γε:

1. εdikae: Salat "Nyameφρε" Onyame ayeno nhγε wα muslimiφαα su σεδεε waye no nhγε wα akomhyaφαα ενε asomaφαα su nyinara Onyame asomdwie nka wαnnom ενα Onyame ahyε nekomhyani nedαα Ibraahiim Onyame

asomdwie nka nɔ sɛ ɔbeti nefie hɔ efa tawaaf ye ene Nyamefrɛ ene rukuu ye ene sujuudu ye Onyame kesie Nɔ akasɛ:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]

{ena kae wɔ mmerɛ a yayɛ efie yi akwanaba ama nipa nom ene ahɔbaebo ena mɔnfa maqaamu Ibraahiim Nyamefrɛ biya, ena yafa bohɛ wɔ Ibraahim ene Ismaail sɛ ɔmɔ de tawaaf ye ebeti mefie no hɔ ene engyinaho ene rukuu ye ene sujuudu ye.} [Suura Baqara:125]

ena Onyame ayeno nhɛ ɛwɔ Musa su wɔ frɛ a edikae mo efa Musa Onyame asomdwie nka nɔ, Onyame kesie akasɛ:

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۗ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۗ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۗ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ [طه: 12-14]

{ Nokorɛ me mena meɛ wo Awurade senti worɔ wonpapoa, Nokware wo woɔgyina biya pepɔ ahɔtɛ "tuwa" (12) ena Me mayi wo na senti tɛɛ efa deɛ ɛye ayedeɛ yekyire (13) Nokorɛ Me na meɛ Allaah obiara nneho nokorɛ mo agye Me senti mɔnsom Me ena mɔnfrɛ Nyame Salaat efa nekae mo (14)} [Suura Taha 12-14]

ena Issa Masihi abɔ amanie Onyame asomdwie nkɔ sɛ nokorɛ Onyame ahɛ nɔ efa Nyamefrɛ hɔ "Salat" ene zaka yi hɔ na wakasɛ sɛdeɛ Onyame kesie akasɛ:

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: 31]

{ "... ena waye me nhyira ewo beebiara meho ena wahye efa Nyamefre Salat ene zaka ye wo emmere mo a meti nkwa mo...} [Suura Maryam:31]

ena Nyamefre 'Salat' ewo Islaam mo eye gyinaho ene rukuu ye ene sujuudu ene Onyame zikiri ye ene nekrɔn kanfoɔ ene nraebo wo nipa Nyamefre efiri mpre num nom eɗa biara, Onyame kesie akase:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]

{ Mɔnbo mo Nyamefre mpre num no ho bae ene adentemo Nyamefre ena mɔngyina mo nae su pintee nma Onyame esro mo } [Suura Baqara:238]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]

{ Gyina Nyamefre so efiri ewia nreeye mo ekwoɔrim anadwo enwura mo ena quraanil fajir, Nokoye quraan fajir eye adee a eye adansi } [Suura Israai:78]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Na adee a eye rukuu eye se ɔye wo Awurade kesie ewom ɔtumifoɔ ɔkesie ena sujuudu so esese wobɔmoden wo nraebo ewom na yewo gyedie se ye beties mɔnraebo).Musilimu Nwoma.

2.Mmienu : Zaka ye adee a Onyame ayeno nhye wo muslimifoɔ so sedee Onyame ayeno nhye wo akomhyafoɔ ene asomafɔɔ kanii nom Onyame asomdwie wɔnnom eye

sika mo ye kakraa bi adoro nisaab efiri wo sika mo -emmera atimtim so ene nenisaab deε Onyame ahyehye atuhō- eye nhye wō sikafoō agyapadie mo na ye de ama ahiafoō ene des wō ekahō wō mpre baako pe afim mo, Onyame kesie akas:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]

{ Gye firi wō sika mo entutusōdu zaka nefa ti wōnnom hō ena nafa ti wō sika hō na afei nabō nraebo ema wō, Nokore wonraebo ye ahōbaebo ema wō, ena Onyame neye asuteenii nimdienii.} [Suura Tawba:103]

ena emmere a wōmhyani Onyame asomdwie nka nō eresomaa Muaaz Onyame npenie nka nō ewō yemen kromo wōkakyire nō se:&& Nokore wo bekō nkrufō bi nkyen nwomafō nafre mo ekwō hyahaada hō se nokore mo wene biara nneho nokware mo agye Onyame Allaah nkoa ena nokore me so meye Onyame somafō nase wō egye wo etom edisu efa saa so ene kyire wō nokore mo Onyame aye Nyamefre mpre num nhye wō nda ne anadwo mo nyinara ama wōnnom nase wō ediso a na wama wō ahunu se Onyame aye zaka entutsoōdu nhye wō wōnnom sika mo gyefiri asikafoō hō nafama wō ahiafoō nom nase wō edeso a ewō saa so ene ye ahweyie nahwe wō agyapadie so eyie nasro wrefō yasisi nō nraebo na nokore nne ene Onyame ntem nkataso enyeni && Yeyaaye efiri Tirimizii hō (625).

3.Mmiensa :Siyaam Akyirewia Onyame ayeno nhye ewō muslimifō su sedε Onyame ayeno wō akomhyafō ene

asomafoɔ atwam nom Onyame asomdwie nka wɔnnom, Onyame kesie akase:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]

{ Oh eye mɔ deɛ mayagyedie yaye akyirewia no nhye wɔ mɔso sedee yaye no nhye ama deɛ ɔmɔ ede ɔmɔ animo kae sedee mɔbesro Onyame.} [Suura Baqara:183]

ena enɔ neye : Anu kutam efiri aduane di ho wɔ anopa awia ramadan bosomi mo ena akyirewia ema wo kuta wo apedee entitiye mo ene abotireNa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Onyame ɔtumifoɔ ɔkesie ekase: Akyirewiaye akwankyire ye medea ena me na memahɔ nhyira wagyae nakwɔnɔdee ene naduane di ene nensuo num enam menti ena siyaam akyirewia ye ahɔbaebo ena efa akyirewiayenii anigyie mmienu: Anigyie ewo emmere a woɔbee wanu ene emmere a wobehyia wo Awurade >> Bukhari Nwoma 7492.

4. enae: Hajji Onyame ayeno nhye wɔ muslimifoɔ su sedee Onyame ayeno nhye ewo akomhyafɔɔ ene asomafoɔ kanii nom Onyame asomdwie nka wɔnnom ena Onyame ahye nekomhyani Ibraahim nadanfɔ Onyame asomdwie nka nɔ se ɔnfre efa Hajji, Onyame kesie akase.

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوَكِّلْ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: 27]

{ ena ye azaan efre nipa nom efa hajji ye ho wɔnnom ebeba nante mo ene ewɔ kwan biara so aboa sotina wɔnnom ebeba afiri enmiyamiya eware aba..} [Suura Hajji:27]

ena Onyame ahye se ɔmɔ ebeti nefie ahɔbaebɔ ho ema hajjiyefɔ,Onyame kesie akase:

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [الحج: 26]

{ ena kae wɔ emmere a yekyere Ibraahim wɔ beebia efie no ewɔmho se nma nɔ npatahɔ nka mehɔ abosomsom ho koraa ena ɔnfa tawaaf ye enti efie no ho ene enaesu gyina nyamefre ene rukuuye ene sujuudu ye..} [Suura Hajji:26]

ena hajji eno neye: Nyamefie adwenefa wɔ makka mukarrama ensera kwɔ efa dwumadie soronkwo a yenim nekwo baako pe ewɔ wonfie mo nyinara wɔ abraa ɔwɔ ho tumi,Onyame kesie akase:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]

{ ena Onyame wɔ nipa so ne hajji fie efiri dee ewɔ ho tumi ekwantwaye wɔhɔ,ena dee ɔbe yeno kaafiriya na nokore Onyame neye agyapadie ahɔya wura wɔ adasamma so } [Suuratu Al-Imrana :97]

ena wɔ hajji mo eboaboa hajjiyefɔ nyinara muslimifo ewɔ beebe baako akomati esom ema ɔbɔadee ɔkrɔnkɔnii ena hajjifo nyinara eye ehye no ma efa sedee ye ye manaasik hajji no yie ewɔ kwan a yakyire ne gyina soyebre ewɔ nekwan so ene nenimdie yansa mo ene netineye anamotuo.

24. ena deε a εsu εdemo εma Nyamesom ye soronkwo wɔ Islaam mo bi neye sεdeε εsom no tee ene ne mmerε ene ne mmera Onyame krɔnkɔ ɔkεsee no ayeno emmera εna Ne somafoɔ Onyame asomdwie nka nɔ abɔ ho amanee εna enye adeε a nipa εde be akahɔ anaase watibisu ekɔrim saa enda ye mo εna saa εsom akεsie yi nyinara akomhyafoɔ nyinara afrε akɔho Onyame asomdwi nka ɔmɔ.

ena deε a εsu εdemo εma Nyamesom ye soronkwo wɔ Islaam mo bi neye sεdeε εsom no tee ene ne mmerε ene ne mmera Onyame krɔnkɔ ɔkεsee no ayeno emmera εna Ne somafoɔ Onyame asomdwie nka nɔ abɔ ho amanee εna enye adeε a nipa εde be akahɔ anaase watibisu ekɔrim saa enda ye mo, Onyame kokroko akase:

﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]

{ Nde εda yi yahye mɔsom no ma ama mɔ εna ye de yaadam ahyeno ma ama mɔ εna ya pene amano dii sε Islaam som.} [Suuratu Al-Maida 3]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿فَأَسْمِسْكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43]

{ Na kuta mo yie εfa deε yasani ama wo ye ayedes yekyire, Nokore wo ho εwɔ ekwan tineye su atimtim.} [Suuratu Az-Zukhruf 43]

ena Onyame kεsie akasa εfa Salat Nyamefrε hɔ:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا﴾ [النساء: 103]

{ Nase mɔfrɛ Nyame ewieɛ ene mɔntumtum Onyame ngyinahɔ ene entenahɔ ene endahɔ, enase mɔkwɔ ahɔɔ mo a na mɔnfrɛ Nyame 'Salat' Nokore Nyamefrɛ ewɔ ho yi eye adeɛ a enhye wɔ gyedienii su yatworɔ no nemmerɛ mo..} [Suura Nisaai:106]

ena Onyame kesie akasa efa zaka yi ho:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]

{ Nokore deɛ ewɔ ho nese zaka yeɛ ye de ma ahiafoɔ ene ehɔ dwumayefoɔ ene deɛ ɔpɛɛ ɔye Islaam tuuba ena akɔa ene ekadinee ene deɛ ɔdi Nyame dwuma ene ɔkwantufɔɔ,eye nhyɛ a efiri Onyame ho,ena Onyame neye nimdieneɛ yansawura } (Suura Tawba:60)

ena Onyame kesie akasa efa Siyaam akyirewia ho:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]

{Ramadan bosomi mo deɛ yasani quraan ewom eye tineɛ ema nipa nom ena eye nkyirekyere efiri tineɛ ene furqaan nokware ene atorɔ ntem pefɛɛ mo, na deɛ ɔbe di bosomi no adansie efiri mɔ mo na ɔnye ramadan akyirewia,ena deɛ ɔyare anaase akwɔntuo mo ene ɔnfa ramadan ye no enhye

eda fofrɔ mo, Onyame ɛpe agɔɔɔno ɛma mɔ ɛna ɛnye adee
ɔpe dendeede ɛma mɔ ɛna mɔnhye nda mo ma ɛna afie
mɔntumtum Onyame kɛsie mo ɛwɔ tineɛ watine mɔ ɛna
ɛɛbia mɔbɛye Onyame ayɛ ndaasie mo.} [Suura Baqara:185]

ɛna Onyame kɛsie akasa hajji hɔ:

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 197]

{Hajji ye ɛwɔ bosomi a yanim mo,na dee yaye hajji nhye
ama nɔ no nma nɔ ɛnye adwamaebo anaase boneye anaase
akyiniedi ɛwɔ hajji mo ɛna ɛnye adee wo be di dwumadie pa
bi agye Onyame enim , ɛna mɔnyere mɔhɔ na nokware
dwumadie pa ɛde nyamesro ɛkahɔ,ɛna mɔnsro me oh eye
badwenebafoɔ.} [Suura Baqara:197]

ɛna saa ɛsom kɛsee yi nyinara ɛno neye dee akomhyafɔɔ
nyinara ɛrefre kɔho Onyame asomdwie nka ɔmɔ.

25. Islaam somafoɔ ɔnɔ neye Mɔhwammɛd bun Abdallah ɔfiri abusua ye mo Ismaail bun Ibraahiim Onyame asomdwie nka ɔmɔ yawo nɔ ho makka afi 571yesu akyi ɛna yama nɔ atu amantuo aba madina ɛna ɛnye adeɛ waka nenkrufɔɔ hɔ ɛfa bosomsom hɔ na ɛmom ɛye adeɛ ɔka wɔnnom mo wɔ dwumadie ɛsonobo mo ɛna ɛye adeɛ a ɔwɔ subae pa yie ansaana yɛsoma nɔ ɛna ɛye adeɛ a nenkrufɔɔ atu nɔ diin sɛ nokorefoɔ'Ameen' ɛna Onyame ɛsoma nɔ wɔ ɛmmere wadoru nfiɛ ɛduanaɛ ɛna Onyame de ne aaya"sankyireni'atimtim nɔ ɔkesie mo ɛna quraan kareem nekɛsie mo ɛnɔ neye akomhyafoɔ aaya sankyireni kɛsie ɛna ɛno neye deɛ aka ɛfiri akomhyafoɔ aaya mo ɛkwɔrim ndɛ ɛda yi mo,ɛna ɛmmere a Onyame ahyɛ nesom hɔ ɛma ɛna somanee ne abɔhɔ daworu Onyame asomdwie nka nɔ dadwene nee yansa awieɛ ɛwuo ɛbaa nesu ɛwɔ abraa nenfiɛ ye ɛduasia mmiensa ɛna yɛsɛɛ nɔ wɔ madina ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ ɛna ɔnɔ neye akomhyafoɔ ɛne asomafoɔ awieye nkata anu,Onyame de tineɛ nasomaa nɔ ɛne nokore ɛsom sɛdeɛ ɛbeyɛ a ɔbeyɛ nipa nom afiri ɛsum abosomsom mo ɛne kaafiriya mo ɛne tiribonkwɔso ɛde ɔmɔ ɛrekwɔ Onyame krɔ pɛ hɔ tawoheed nimdie ɛhaɛ mo ɛne gyedie'Iimaan'ɛna Onyame ɛde adansie ɛma nɔ sɛ osomaa nɔ sɛ oye Nyamesɛm kanee ɛwɔ nepe mo.

Islaam somafoɔ ɔnɔ neye Mɔhwammɛd bun Abdallah ɔfiri abusua ye mo Ismaail bun Ibraahiim Onyame asomdwie nka

omɔ yawo nɔ ho makka afi 571 yesu akyi ena yama nɔ atu amantuo aba madina ena enye adee waka nenkrufɔɔ hɔ efa bosomsom hɔ na emom eye adee ɔka wɔnnom mo wɔ dwumadie esonobo mo ena eye adee a ɔwɔ subae pa yie ansaana yesoma nɔ ena eye adee a nenkrufɔɔ atu nɔ diin se nokorefoɔ'Ameen' ena Onyame esomaa nɔ wɔ emmere wadoru nfie eduanae,Na Onyame kesie nɔ akasa wɔhɔ:

﴿وَأَنَّكَ لَعالَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [الفلم: 4]

{ "... ena nokware mo wo ɔwɔ subae pa edemo eye.} [Suura Qalam:4]

ena Onyame eyeɛ no komhyani ewɔ emmere a onyenedoruu nfie eduanae ena Onyame de aaya'sankyireni'kesie etaa no akyi ena nekesie neye quraan kareem.ena ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ ekaase:<< Yenni efiri akomhyafoɔ mo komhyanii be agye yama nɔ deɛ ye nensesɔɔ na nipa ayagyedie wɔhɔ ena nokore deɛ ye de ama nɔ no ye ayedeɛ yekyire ena Onyame aye ama nɔ na mewɔ awerehyemo se atamoda wobeba nɔ na dodoɔ na adi woakyi >>Saheehu Bukhari Nwoma mo.ena quraan kesie eno neye Onyame yekyire ayedeɛ ema nesomanee Onyame asomdwie nka nɔ,Onyame kesie akase efa hɔ:

﴿ذَلكَ الكِتابُ لا رِيبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]

{ Saa nwoma yi entoru naa nnim, eye tineɛ ema Nyamesrofoɔ } [Suura An-Nisa 82]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾
 [النساء: 82]

{ Enti won nfa Kuran Nhoma yi nko adwene dwene mu, na se nka efiri Obi nkyen a nyeye Onyankropɔn a anka won nyaa nsesaye pii wo mu.} [Suura An-Nisa 82]

ena Onyame ato akansie ne jinni ene nipa entem ewo saa quraan ye se wo enfa nensesoɔ mbra, Onyame kesie akase:

﴿ قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِجُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ ﴾ [الإسراء: 88]

{ Kase nase mo boa manu nipa ene jinni se mɔpese mo de saa quraan yi nsesoɔ bi ebaa nyeye adee a mɔbetumi ede aba efa nensesoɔ ena sankaa eye adee a eye wo emo emo bi mmoa mo } [Suura Israai:88]

ena Onayme ato akansie ama wo efa se wo enfa suura edu mbra efiri nensesoɔ mo, Onyame kesie akase:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ ﴾ [هود: 13]

{ Anaase wo erekase eye entoru seremoka, Na monfa efa suura edu nsesoɔ nom bi entoru seremoka nom bi mbra ena monfre dee monim se wo ebetumi aboa mo

afiri Onyame akyi nase moye nokorefoɔ } [Suura Hud:13]

ena Onayme ato akansie ama wo efa se wo enfa suura baako pe mbra efiri nensesoɔ mo, Onyame kesie akase:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [البقرة: 23]

{ ena se mɔtire mo eye mo naa efiri dee yasani ama yakoa ene mɔnfa efa suura baako pe mbra efiri nensesoɔ nom bi ena mɔnfre mɔ adansefoɔ nom nkahɔ efiri Onyame akyi nase mɔye nokorefoɔ.} [Suura Baqara:23]

ena quraan kesie eye aaya Onyame nsankyirene krɔpe ena aka efiri akomhyafoɔ aaya sankyireni mo ekwɔrim nde eda yi ena emmere a Onyame ahyema efa nesomanee Onyame asomdwie nka nɔ esom ena wabɔ esom nohɔ dadwene daworu bo awiee ena ewuo ebaa nesu Onyame asomdwie nka nɔ na nenfie ye eduasia mmiensa ena yasee nɔ wo madina nabiyu Onyame asomdwie nka nɔ. ena somafɔɔ Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ ɔnɔ neye akomhyafoɔ ene asomafɔɔ awieye nkata anu, Onyame kesie akase:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾ [الأحزاب: 40]

{ enye adee Mohwammed eye moɔ mo krɔ papa efiri moɔ mbranteɔ yi mo na emom ɔye Onyame somanii ena akomhyafoɔ awieye, Na Onyame Allah efa biribiara ɔnim.} [Suura Al-Ahzab:40]

Hadiis a yenya afiri Abaa Huraira ho Onyame npenie nka nɔ nokware ɔkomhyani Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ akase:<< Nokore mensesoɔ ene akomhyafoɔ adikanfoɔ nsesoɔ efiri ansaana mereba etese abranteɔ bi a wasi edae na wasi no yie ama no ayefe yie agye tokuro bi a

ewo edae nom,ena Onipa eretwa ho ahyia na eye omo nwanwa yie efa ho ena afei omo ereka se: oh sanka ye de bobba bi ekataa kwan yi ? wakase: Na me na meye bobba no ena mena meye akomhyafo awieye anu si >>Saheehe Bukhari Nwoma.ena ewo ingyeela 'apam mono' mo Masihi akase Onyame asomdwie nka no wo amaniebo mo efa somanee Mohammed Onyame asomdwie nka no:(ebo no dee wagya no a wanfa anhye edae nom eno neye dee adani efie no ti na emom omo ankenkae no wo nwoma mo anaa:ena okakyire wonnom wo Awurade kasa mo na eye whawha ewo wonnom aniwa so) ena ewo apam dada mo safar ewo ho ekwopim nde eda yi waka womo Onyame kasa mo efa dee Musa aka Onyame asomdwie nka no:(ye betintim komhyani bi ama mo ofiri monua nom bi nseso na me maasem ahye nanu na wakasa akhyire mo wo ahyedee a ye behye no woho).ena somafo Mohwammed Onyame asomdwie nka no Onyame de tine ene nokore esom nasomaa no ena Onyame ade nehwo adansedie wo nokore mu,se owo nokore kwan so ena osomaa no se oye ne Nyamesem kanii efre Nipa ko nyame nkyen,Onyame kesie akase:

﴿ كُنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: 166]

{ Na nokore mo Onyame ede adanse efa adee a wasani ama wo,osaniye efa nenimdei mo,ena asoroboafow su ede adansie,ena esonebo ema Onyame adanse mo.} [Suura Nisaai 166]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح: 28]

{ ɔɔɔ neye deε wasoma nasomanee efa tineε ene nokware esom sεdeε eβε daadi akata esom biara su,εsonebo εma Onyame adanseε mo [Suura Al-Fatihi 28]

Onyame de teneneε somaa no sε ɔβε yi Nipa afiri abosomsom sum ne bonniaye ne fratam mu nkɔ koroyɔ ne gyidie mu. Onyame krɔnkɔn nii no akase:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: 16]

{Onyame de saa nhoma yi tene Obi a ɔdi neε Onyame ani gye ho wɔ gyedie ne dwuma pa banɔ akwan firi Onyame asotwe ho, na w'ayi wɔn afiri εsum mu akɔ ɔhan mu wɔ ne tumi mu na w'atene wɔn wɔ kwantenene no so.} [Suuratu Ai-Maida :16]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿الرَّكِيَابِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: 1]

{Saa mma meensa yi Onyame nko ara na tease, Oyi ye nhoma y'asane ama wo (ɔsomafoɔ) sε wo be yi Nipa afiri bonniaye ne fratam ne yera mu akɔ ɔhan mu nkramosom wɔ wɔn wura tumi mu na εno ne Onyame kunimdifoɔ a ɔfata aseda daa kwan,} [Suuratu Ibrahim 1]

26. Na nkramosom mmara a Ɖsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no ye Onyame nhoma ne ne mmara a etwatoɔ na eye mmara a ahyema na emu na Onipa som ne ne wiase yiedie wɔ na eye banɔ a edekan ma Onipa som ne wɔn mogya ne wɔn sika ne wɔn adwen ne wɔn abusua, na apepa mmara a adenkan nyina ara tese mmara bi nso apepa yɔnkɔɔ.

Na nkramosom mmara a Ɖsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no, ye Onyame nhoma ne ne mmara a etwatoɔ na Onyame de saa nhoma yi ahye esom no ma na n'adom ahyema wɔ Nipa so enam se wasoma Ɖsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ama Nipa Onyame krɔnkrɔn nii no akase:

﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾ [المائدة: 3]

{Enne dua yi m'ahye mo som ma ama mo na me de m'adom adom mo na m'apene nkramosom so ama mo se esom.} [Suuratu Al-Maida 3]

Na nkramosom mmara ye mmara a ahyema na emu na Onipa som ne ne wiase yiedie wɔ, enam se abua mmara a adenkan nyina ara ano na ahye no ma nso Onyame krɔnkrɔn nii no akase:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9]

{ εsipi σε saa nhoma yi kuran rekyereε kwan tenenee na ε rebo agyidifoε wεn di dwuma pa amanebε σε wεn wε akatua keσεε wε Onyame nkyen.} [suuratu Israa 9]

Na nkramosom mmara ayi adesua a na εda adikanfoε so afiri Nipa so Onyankopεn kaase:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 157]

{...Wεn a wε di εsomafoε εkεmhyeni no akyi a εnnim akenkan na εwε wεn atwerεsem no mu wε apam dadaa ne apam mono mu εhye wεn papaye na εbra wεn bonniaye na εma wεn adepa ho kwan na εye adefe akyiwadeε ma wεn na εyi wεn adesua ne nkεnsεnkεnsεn a εda wεn so afiri wεn so, na wεn a agye n'adi na wε de obuo ama no na w'abua no na wεn adi εhan a y'asane aka no ho no saa nkεnfoε no ne nkonimdifofε.} [Suuratu Al-Araf 157]

Na nkramosom mmara apepa mmara a adenkan nyina ara Onyame krεnkεnii Nε akase:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]

{Yasani nwoma ama wo wo nokware so edi nokore adansie ema dee edi nanim ekae efiri nwoma nom ene ahobaebo woso, Na di asem ewo wontem efa dee Onyame asani, Na ndi won akoma apede akyi ewo ebra a nokore aba woso, Na won mu biara y'aye mmera ene enhyihyeye ama won, Na se Onyame epe a nanka oye mo edom baako na emom sedee ebe ye a obe so mo a hwe afa dee ode ama mo no ho, Enam saa nti mndi akansie wo dwumadi pa ho, Na Onyame nkyen na morekwo mo nyinara na wabomo amanie efa dee na mo redi akynie wo ho.} [Suura Maaida: 48]

Na nhoma krōnkrōn (kuran) a nkramosom mmara wo mo yi, ye nokware adansedie ma Onyame nhoma a edenkan na ayi afiri ho na apepa saa nhoma no.

27. Onyame ahoteenii kokroko no ngye esom biara gye nkramosom a Osomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no, na obibiara a obesom som foforo a enye nkramosom no Onyame ngye saa som no

Onyame ahoteenii kokroko no ngye esom biara wo bere a wasoma ne somafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akyi gye nee Osomafoɔ no de aba, na obibiara a obesom som foforo a enye nkramosom no Onyame ngye saa Nipa no dwumadie biara. Na Onyame krōnkrōnii No akase:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
 [آل عمران: 85]

{ Na obibiara a ɔbesom som foforo a enye nkramosom no ye ngye ne ndwumadie daabi da, na atemmuada ɔbe ka nkuguoforo ho. } [Suuratu Al-Imrana 85]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾﴾ [آل عمران: 19]

{ Esipi se, esom a ewo Onyame nkyen ye nkramosom na won a ye maa won nhoma no anni akyenyedie gye bere a nimdie no baa won so mpofirim wo won ntam, na dee be twa Onyame nsankyerene so nkontompo no esipi se Onyame atemmuo ye ntem. } [Suuratu Al-Imrana19]

Na saa nkramosom yi ye Abraham Onyame dofo kwan Nyame nhyira nka no:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾ [البقرة: 130]

{ Na Obibiara mpo Abraham kwan no gye Obi a onnim nekera gyenabere, Nokware ye ayi no ahye no animonyam wo wease yi mu, Na esipi se atemmuada nso oka apapaforo ho. } [Suuratu AL-Bakara 130]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾﴾ [النساء: 125]

{ Na hwan na esom sompa sene Obi a ɔbe bere n'anim ama Onyame na ɔye dwuma pa na onam Abraham kwan tenenee

soɔ, Na Onyankopɔn ayɛ Abraham ne dɔfo.} [Suuratu An-Nisa 125]

Na Onyame hyɛɛ Ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no sɛ ɔnka sɛ:

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِثْلَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 161]

{ Ka sɛ ɛsɪpi sɛ me wura atene me wɔ kwan tenenee so ɛsom tenenee a yɛ Abraham kwan tenenee, na na ɔnka abosomsomfoɔ ho } [Suuratu Al-Anam 161]

28. 28- Nhoma kr̀nkr̀n yi (Kuran) ye nhoma a eye nk̀mhye ma ƆsomafoƆ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no na eye abodee nyina wura asem Ɔyeɛ no akan si ma Nipa ne Motea se wɔn nfa ne sesoƆ mmera ana Suura tese emu Suura na saa akan si yi daso wɔ hɔ besi nne, na nhoma kr̀nkr̀n yi yi nsem busa pii ano a Onipa ɔpɛpɛm nhu ano yie, na nhoma kr̀nkr̀n yi sombo ye de Arab kasa abɔho ban kasa a ye de sanee ye na y'anyi aba biara anfiri mu, na eye nhoma a ahwete babiara, na eye nhoma a esombo ye anwonwade efata akenkan, ye akyerɛ ase saa pɛpɛɛ pɛ na ƆsomafoƆ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nso anamontuo ne ne nkyerɛkyerɛ ne n'abakɔsem nso ye abɔhoban, Na asuafoƆ nokwarefoƆ sua firi ne hɔ kyerɛ nkyeri mma na eye nhoma a yede Arab kasa na atwerɛ na ewɔ asekyerɛ wɔ kasa pii mu na nhoma kr̀nkr̀n (Kuran) ne ƆsomafoƆ no anamɔntuo (sunah) ye ntini anaa ahyaseɛ ma nkramosom mmara ne ne nhyehyeeɛ, nti nye nkramosom ne Obi suban mmom ye gye nkramosom firi Onyame nk̀mhye mu :nhoma a esombo ne Ɔk̀mhyeni anamɔntuo.

Kuran Nhoma kr̀nkr̀n yi ye Nhoma a Onyame de hyee Ɔsoma nii Arab nii Mohammed nk̀m wɔ Arab kasa mu, Na eye Abodee nyina wura kasa,Na Onyame kr̀nkr̀nii No akase:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء: 192-195]

{Na esipi se ye sanee saa nhoma yi firi abodee nyina wura nkyen(192)ɔɔɔɔ gabera na de sanee (193) Esanee baa wo so (w'akuma) se wo be ka kɔkɔɔɔ ho(194) Esanee wɔ tekyerema a eye Arab kasa mu(195) } [Suura hyuara 192 195]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَإِنَّكَ لَلْأَقْرَبَٰنَ مِنَ لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6]

{... Na esipi se wo gye saa nhoma yi firi Atemmuafoɔ a ɔwo biribiara ho nyansa Nimdifoɔ a ɔwo biribiara ho nimdie.} [Suura An-Namil 6]

Na saa Nhoma yi (Kuran) firi Onyame nkyen na edi nokware adansedie fa Onyame nhoma a adi n'anim kan ho.Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 37]

{ Na saa Nhoma yi (Kuran) ntumi nfiri obibiara nkyen mmom edi nokware adansedie fa Nhoma a adin kan ho, na eye nkyerɛkyere fa nee ye akyiwadee ne nee nye akyiwadee ho firi abodee nyina wura nkyen } [Suura Yunus 37]

Nhoma a esombo yi (Kuran) ye nkyerɛkyere pii fa nsem a akristofo ne gyewfo dee ho akyenyedie wɔ wɔn som mu,Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُضُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: 76]

{ Esipi se saa Kuran Nhoma yi rekyere Israel mma nsem pii a won redi ho akyenyedie. } [Suura An-Namil 76]

Kuran Nhoma a esombo yi nyinaso pii wo mu ma Nipa nyina ara, wo kwan a won be hu nokware a efa Onyankropɔn hoteenii kokroko no ho, ne ne som, ne n'akatua, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: 27]

{ Nokware nokware y'aye nhweso biara bi wo Kuran Nhoma yi mu ama Onipa sedee ebe ye a won de beye nkaekae akaekae. } [Suura Az-Zumar 27]

Na waka se:

﴿ ... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89]

{ Na ye sanee Nhoma yi maa wo se nkyerkyere ma biribiara, Na eye tenenee ne mmɔborohunu ne nkuranhye sem ma Nkontompofoɔ. } [Suura An-Nahl 89]

Kuran Nhoma krɔnkrɔn yi bua nsem busa a ehea pii a Nipa ɔpɛpɛm ntumi yi ano, Kuran Nhoma krɔnkrɔn kyere sedee Onyame bɔɔ ɔsoro ne Asase, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ أُولَئِكَ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: 30]

{ Enti a boneaefoɔ nhu anikan se na ɔsoro ne Asase bom na ye tetee mu, Na y'aye nsuo nkwa ama ɔteasefo biara, Na won ngye nni anaa } [Suura Al-Anbiya 30]

Na sen na Onyankropɔn bɔɔ Onipa, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرْدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ [الحج: 5]

{Oh Onipa eii se mo gye akyinnye wɔ ɔwusɔre da no ho a, esipi se ye bɔɔ mo firi dɔtee mu san firi nkwaboa mu san firi mogyafua mu san firi nam a ahyɛma ne deɛ atɔsene mu sɛdeɛ yebe da yen tumi adi akyere mo, Na ye nee yepe ka awodeɛ no mu kɔrim bere pɔtee bi, Afae na y'ayi mo apue abofra na mo aduru mo mmerante bere, na ye kum mo mu bi, na binom nso anyin kɔrim nkokorabere a ɔnnim neɛ na ɔnim dada no, Na wo behu Asase se awo hwee nni so na se yetɔ nsuo gu so a na aposo ma ɛmu nnɔbaɛ ne nnua a Onipa anigye ho nyina ara repuepue.} [Al-Hajj 5]

Na dwanekɔbea wɔ hene, Na edeen ne ɔparafɔɔ ne bonniaye nii akatua wɔ asetena yi akyi, na y'aka saa nyinasɔɔ wɔ krataa fa a etɔso (20) Enti asetena yi baa kwa anaa enam botae keseɛ bi nti? Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ [الأعراف: 185]

{Enti saa nkontompofɔɔ yi nhwe Ɔsoro ne Asase ahennie mu, Ne nee Onyame abɔ wɔ ntam, Na wɔn nhwe wɔn nkwa a aka kakra na wɔn akɔ ɔsae mu, Na kɔkɔbɔ asem ben na wɔn

gyedi wɔ Kuran Nhoma yi nsem akyi bio} [Suura Al-Araf: 185]

Na waka se:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: 115]

{ Enti mo susu se yebɔɔ mo saa ara kwa na yen kyen na yensan nfa mo mma anaa } [Suura Al-Munun: 115]

Na Kuran Nhoma a esombo yi yede Arab kasa abɔ ho ban besi nne kasa a esanee wɔ mu, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]

{ Esipi se yen na yesanee nkaekae no, na esipi se yen na yebe bɔ ho ban } [Suura Al-Hudwurat 9]

Aba biara nfiri mu, na eye dene nso se emu nsem be tea yɔnkɔɔ anaa se eso bete anaa nsesaye be wɔ mu. Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]

{ " Enti wɔn nfa Kuran Nhoma yi nkɔ adwene dwene mu, na se nka efiri Obi nkyen a ɔnye Onyankrɔpɔn a anka wɔn nyaa nsesaye pii wɔ mu. } [Suura An-Nisa 82]

Na eye Nhoma a, atintira apete, Nhoma a, edimu ye nwanwa, n'akenkan anaa ne tie anaa ne nkyerεase akenkan fata ma Obibiara, tese sεdeε Ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no, nsem ne, ne dwumadie akwan (Sunnah) ne, ne nkyerεkyerε ne n'abakɔsem ye adee

a y'abo ho ban, na mmerima a, won ye nokware na aboano firi nokwarefoɔ nkyen, na atintira wo Arab kasa a eye Ɔsomani no kasa, Na ewo asekyere pii wo kasa horoɔ mu, na Kuran Nhoma kronkron Ɔsomani no nsem ne n'akwan, mienu yi ne Nkramosom mmera ne ne nkyerɛkyere ahyasee, Na Nkramosom nye oɔbaakofoɔ bi subanɔne, na mmom Nkramosom suban firi Onyame nkɔmhye a y'abo ho ban mu, Kuran Nhoma kɛsee ne Ɔkɔmhyeni nsem ne ne nkyerɛkyere, Onyame ka fa Kuran Nhoma no ho se:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت: 41-42]

{Esipi se won a atwa Kuran Nhoma no so nkontompo wo bere a aba won nkyen, na esipi se eye nkunimdie Nhoma a enni nkuguo, na nkontompo sem nim, nsesaye nim sento nim, Esane firii Ateɔmmuafoɔ Nyansafoɔ a ofata aseda daa nkyen} [suura Al-Fussilat: 41 42]

Onyame kokroko ka faa Ɔkɔmhyeni anamontuo ho se eye nkɔmhye a efiri Onyankropɔn nkyen:

﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾ [الحشر: 7]

{... Na dee Ɔsomafoɔ de aberɛ mo no, mo somu yie, na dee wabra mo wo ho nso mo ngyae, na mo nsuro Onyankropɔn, Esipi se Onyame asotwe ye dene yie.} [suura Al-Hahyir: 7]

29. Nkramosom rehye Nipa se wɔn ye awofɔ papa empo se wɔn nye nkramofo na wɔn ye mmɔfra nso papa..

Nkramosom rehye Nipa se wɔn ye awofɔ papa na Onyame kaase:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾ [الإسراء: 23]

{Na wo wura ahyehye aye no nhye se, mma mo nsom biribiara gye Ono nko ara, na mo nye awofɔ papa, Se wɔn mu baako anaa wɔn mienu nyina ara panyin mere to wo a, menka (uff) kasafi nkyere wɔn, na mentetee wɔn, na ka kasapa kasa krɔnkrɔn kyere wɔn.} [Suura Al-Isra: 23]

Na Onyame krɔnkrɔnii No akase:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾﴾ [لقمان: 14]

{ Na ye ahye Onipa se onye n'awofɔ papa maame faa no afuro wɔ bre ne yaw a bre ne yaw de akwere, Na bere a onom nofosuo ye afe mienu, Na ye hyee no se fa aseda ma me ne w'awofɔ na me nkyen ne sankɔbia.} [Suura Lukman: 14]

Na Onyame krɔnkrɔnii No akase:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [الأحقاف: 15]

{ "Na ye ahye Onipa se onye n'awofo papa omaame faa no afuro wo bere ne yaw mu, Na woo no wo bere ne yaw mu, Na bere a odee wo omaame yam ne bere a ode nom nofo ye nna aduasa, Kopim bere a waduru ne aberante bere mu na wanya mfie aduonan saa bere no oka se me Wura bua me na me nna wase wo adum a w'aye ama me ne m'awofo, Na ma me nye dwumadi pa a w'ani gye ho, Na ye me mmofra mmofra pa, Esipi se m'asakyeraba wo nkyen na esipi se me nkramofo ho a mede me ho atwere wo" } [Al- Suura Al-Ahkaaf: 15]

Abu Huraera Onyame anigye nka no kaase: Aberante bi baa Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwe nka no nkyen na Okaa se : Onyame somafo aii hwan ne Nipa a ofata se me ye no papa wo m'asetena mu? Okaa se: (wo maame), Na osan busaa se: hwan bio? Okaa se: (wo maame bio), Na osan busa se: hwan bio? Okaa se: (wo maame bio), osan busa se: hwan bio? Okomhyeni kaa se: (wo papa). Musilimu Nhomana wae ye ohye a efa awofo ho se won ye nkramofo anaa se won nye nkramofo. Na Asmaa Abu Bakar babaa kaa se: (me maame baa me ho na oye bosomsom nii wo bere a Kuraehye abusua ne Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwe nka no ahye yonko bo, na neba ka ne ho, na me busaa Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwe nka no se: Esipi se me maame aba me ho a ope se me ben no na me ye no papa, Na afae me sera no pii enti me nnye saa anaa?) Okomhyeni kaa se: (aane kokosera wo maame). Buhari Nhomam mom se awofo mienu bo won ho moden se won abofra nfiri Nkramosom mu nko som foro mu a, Esipi se Nkramosom rehye no wo saa tebea yi mu se mma no ntie won, Na ongyena ne gyedie so, Na onye

wɔn mienu papa, Na Ɖne wɔn ntena asetenapa. Onyame
krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: 15]

{Na sɛ wo awofɔɔ bɔ mmɔden hyɛ wo sɛ som beribi a wo
nni hɔ nimdie ka me ho a mentie wɔn, Na wo ne wɔn ntena
asetenapa wɔ wease yi mu, Na fa wɔn a asakyera aba me
nkyɛn no kwan so, Afae nso me nkyɛn ne mo sankɔbia na
m'abo mo, mo dwumadie ho amaneɛ.} [Suura Lukman: 15]

Nkramosom nsi kramoni kwan sɛ ɔbedi dwumadipa ama
n'abusua a wɔn yɛ abosomsomfɔɔ anaa wɔn a wɔn nye
n'abusua sɛ wɔn nko ntea no deɛ:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن
تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحنة: 8]

{Onyankropɔn Allah nsi mo kwan sɛ mo bɛ da anidie obuo
ne pɛrɛpɛrɛ yɔ adi ama wɔn a, wɔn anko antea mo na wɔn
anyi mo wɔ mo tenabea mu, Esipi sɛ Onyankropɔn Allah pɛ
wɔn a ɛyɛ pɛrɛpɛrɛ wɔ wɔn kasa ne wɔn dwumadie mu
asɛm..} [Suura Mumtahina: 8]

Nkramosom hyɛ Awofɔɔ sɛ wɔn ma wɔn mmɔfra ntetɛɛ pa
titirw neɛ Nkramosom hyɛ Awofɔɔ ne sɛ wɔn nkyɛrɛ wɔn
mmɔfra wɔn Wura asɛdɛɛ a ɛda wɔn so, tesɛ sɛdɛɛ
Ɖkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ka kyɛrɛ
ne wɔfa ba Abdallah a ɔpapa ne Abas Onyame ngye wɔn tum
se: Oh Abarimaa anaa Abarimaa ketewa enti me nkyɛrɛ wo

nsemfua a Onyame de be bua wo? Na me kaase: aane. Na Dkaa se: Bo Onyame mmera ho ban na Dbe bo wo ho ban, Bo Onyame mmera ho ban na Dbedi wo anim kan, hu Onyame wo anigyee bere mu na Dbe boa wo wo ahokyerere bere mu, Na se wo busa a busa Onyankropɔn na se wo hwehwe mmoa a hwehwe firi Onyankropɔn nkyen. Ahmed Nhoma 4/287 {Na Onyame ahye Awofɔɔ se wɔn kyere wɔn mmɔfra nee be boa wɔn wɔ, wɔn som ne wɔn wiase asetena mu}. Na waka se:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6]

{ Oh Agyidifoɔ eii mo bo mo kra ne mo abusua ho ban nfiri Ogya daree a Nipa ne Aboba na esɔ ano, Abɔfoɔ ahɔɔdenfoɔ na wɔn nye asɔɔdene wɔ nee Onyame ahye wɔn, Na wɔn ye nee Dhye wɔn..} [Suura Attahrim: 6]

Na Ali Onyame ngye no ntum ma yen kasa faa Onyame kokroko asem yi ho se: { Mo mmɔ mo kra ho ban ne mo yere ne mmɔfra ho ban nfiri Ogya daree no ho } Dkaa se: mo ma wɔn ntetee pa ne nimdie. Na Dkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahye awofɔɔ se wɔn nkyere wɔn abɔfra mpaebɔ (salla) sɛdeɛ ebe ye a dbe nya ntetee wɔ so, Na Dkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no kaa se: (Mo nye mo mmɔfra mpaebɔ (salla) bere a wɔn ye afe nson mmɔfra). Abu Dawuda Nhoma mu, Na Dkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Mo nyina ye ahwesofɔɔ na mo nyina beyi nsembusa ano wɔ mo nhwesodeɛ ho, Dkandinii ye hwesofɔɔ na dbe bua nsem ano wɔ ne nhwesodeɛ ho, Na Berema ye chwefɔɔ wɔ n'abusua mu, Na dbe bua nsem ano wɔ ne nhwesodeɛ ho, Na Dbaatan nso ye

hwesofow wɔ ɔkunu fie na ɔbe bua nsem ano wɔ ne
 nhwesodee ho, Akoa nso ye hwesofow wɔ ne wura sika so, na
 ɔbe bua nsem ano wɔ ne nhwesodee ho, Mo nyina ye
 ahwesofow na mo nyina beyi nsem ano wɔ mo nhwesodee
 ho.Ibin Hibban Nhoma 4490

Na Nkramosom ahye awofow se won yi sika nhwe won
 mofra ne abusuafo, Na y'aka nsem yi wɔ krata fa a etso
 (18),Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no
 akyerekyerem mofra hwe ho nfasow na ɔkaa se:Sika a edi mu
 a Obi be yi ye, Sika a ɔbe yi ama ne yere ne ne mofra, Ne
 Sika a ɔbe yi ahwe n'abua wɔ Nyame kwan so, Ne Sika ɔbe yi
 aboa ne yonkofow wɔ Nyame kwan so, Abu Kilaabata kaa se:
 (Na ɔde mofra ne yere na adinkan afae Abu Kilaabata Kaa
 se:Na berema ben na wɔ nhyira pii sene berema a ɔyi sika
 hwe mofra anaa Onyame nam ne so boa won ye won
 apede.Musilimu Nhoma 994

**30. Nkramosom rehye Nipa perepere yɔ wɔ kasa ne
 dwumadie mu mpo se Nipa no ye Otamfo koraa.**

Onyankropɔn hotee nii kokroko no ahyensodee ne
 perepere wɔ ne ndwumadie mu, ne nsesaye a ewɔ ne nkoa
 ntam, na ɔno na wɔ kwan tenenee, wɔ nee wahye ne nee wa
 bera ne nkoa wɔ ho, nee wa bɔ ne nee wa hyehy:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18]

{Onyankropɔn adi adanse se Onyame biara nni ho ɔfata
 osom wɔ nokware mu gye Onyankropɔn baako pe, Na

Abɔfoɔ ne nimdifɔɔ nso di adanse, na nimdifɔɔ gyena pintee wɔ pɛrɛpɛrɛ yɔ mu, Nyame biara nni hɔ a ɔfata ɔsom wɔ nokware mu gye Onyankropɔn baako nkunimdifɔɔ ne ɔnyansafo Nyame.} [Suuratu Al-Imrana /18]

Na Onyame rehyɛ Onipa pɛrɛpɛrɛ yɔ Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...﴾ [الأعراف: 29]

{ Ka sɛ me Wura mo pɛrɛpɛrɛ yɔ.} [Suura Al-Aaraf: 29]

Na Asomafoɔ ne Akɔmhyɛfoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn, wɔn nyina ara de ntɛntrene na aba, Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]

{ Nokware yɛ de nkyerɛkyerɛ asoma yɛn Asomafoɔ, Na yɛ sanee Nhoma kaa wɔn ho, Ne nsɛnia sɛ Nipa bɛyɛ pɛrɛpɛrɛ wɔ asaase so..} [Suura Al-Hadiid: 25]

Na Nsɛnia ɛyɛ pɛrɛpɛrɛ yɔ wɔ kasa ne dwumadie mu. Na Nkramosom rehyɛ Nipa pɛrɛpɛrɛ yɔ wɔ kasa ne dwumadie mu mpo sɛ Nipa no yɛ Atanfo koraa, Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 135]

{Oh Agyidifɔɔ a mo agye Nyame atum mo nyinahɔ pintee wɔ pɛrɛpɛrɛ yɔ adansɛdie mu Nyame nti, Sɛ adansɛdie no

tea mo kera anaa mo awofo anaa mo abusua, Σε Onipa no ye Sika nii anaa Ohea nii na Onyankropɔn kyen wɔn mienu, enam saa nti mendi akoma apedeε akyi nkwete perepere yɔ, Na σε mo sesa nokware adansedie anaa mo dane mo akye a εsipi σε Onyankropɔn na beɔ mo amanee wɔ dee mo reye nyina ara ho amaneeɔ.} [Suura An-Nisaa: 135]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]

{Na ma mo mma εdɔm a wɔn asi mo Nyamefie ho kwan no, ho tan nsi mo perepereye wɔ wɔn mu, na mo bua yɔnkɔ wɔ dwumapa ne Nyamesuro kwan so, na ma mo mbua yɔnkɔ wɔ bɔne ne ɔtan kwan so, εsipi σε Nyankopɔn asotwe mu ye dene yie} [Suura Al-Ma"ida: 2]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى﴾ [المائدة: 8]

{ Oh Agyidifoɔ eii mo nyina pintee wɔ Onyame asedeε so mo nye adansedifoɔ wɔ perepere mu, Na ma mo nfa Obi ho tan ngyae perepere yɔ, mo ye perepere na εno na ben Nyame soro.} [Suura Al-Maidah:8]

Enti wo be nya ɔhye yi nseso wɔ Nipa dɔm bi mmera mu nne dua yi anaa ɔsom bi mu a, erehye nokware adansedie ne nokware asem σε etea wo kra ne w'awofoɔ ne w'abusua, Na erehye perepere yɔ wɔ ɔtamfo ne ɔyɔnko nta.Na

ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahye se ye perepere wo mmɔfra ntam. Na Aamir aka se: m'ate se Bahyir ba Numan Onyame ngye won tum reka wo bere a ɔgyina afutuo gynabea se: Me papa akye me akyedee bi, Na Amiratu a ɔye Rawaahata ba baa kaa se: me ntease kopim se wo be ma ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no adi adansedee na ɔbaa ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkyen na ɔkaa se: esipi se m'ama me ba a ɔfiri Amrata, Rawaahata ba baa akyedee, Na ɔhyee me se me ye wo Adanse nii Onyame Somafoɔ, ɔkaa se: (w'ama wo mma a aka no akyedee yi bi?) ɔkaa se :daabi. ɔkaa se:(Mo nsoro Onyankropɔn na ye perepere wo mo mmɔfra ntam), ɔkaa se: enam yie nti ɔsan n'akye ko faa n'adekyede no. Al-Buhari Nhoma 2587

Enam se Onipa dwumadie ne ne man mu asetena nye yie gye perepere da adi, na Onipa nya ahotɔ wo won som ne won mogya ne won abusua ne Obuo ne won sika ne won man mu gye perepereyɔ daadi, enam oyi nti ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no bere a Makafoɔ ateetee no ye pii wo Nkramofoɔ so no, ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no hyee won se won ntu batatuo nko (Ethiopia) na ɔkyeree won mu se esipi se ɔhene bi wo kurom ho a ɔye perepere ni na ye nsisi Obi wo ne nkyen.

31. Nkramosom rehye Nipa se won ye papa ma abɔdes nyina ara na eferere ko suban pa ne dwuma pa ho.

Nkramosom rehye Nipa se won ye papa mma abɔdee nyina ara:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ [النحل: 90]

{ Esipi se Onyame rehye Onipa pɛpɛɛɛ ɔɔ ne papaye ne adɔye ma n'abusua..} [Suura An-Nahal:90]

Na Onyame kronkɔnii Nɔ akase:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: 134]

{"... Wɔn a wɔyi wɔn sika wɔ anigyee ne ahokyerɛ merɛ mu, na wɔn ye denn wɔ abufuo ho, na wɔn de Nipa mfomso kyɛ, Na Onyankropɔn pɛ apapafɔw asem.}[Suuratu Al-Imrana /134]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:{Esipi se Onyame atwerɛ papa wɔ biribiara so, Se mo rekum mmua a mo nkum wɔn wɔ papa kwan so, Na se mo retwa wɔn nso a mo ntwa wɔn wɔ papa kwan so, Na Nipa ɔretwa no nse ne nkrante anaa akode yie, Na ɔma n'abua no ahotɔ}.Musilimu Nhoma 1955

Nkramosom referɛ kɔ suban pa ne dwuma pa ho, Onyame kokroko aka Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahyensode wɔ adikanfɔw Nhoma mu:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: 157]

{"...Wɔn a wɔ di Ɔsomafoɔ ɔkɔmhyeni no akyi a ɔnnim akenkan na ɔwɔ wɔn atwerɛsem no mu wɔ apam dadaa ne

apam mono mu zhye wɔn papaye na zbra wɔn bonniaye na zma wɔn adepa ho kwan na zye adefe akyiwadee ma wɔn na zyi wɔn adesua ne nkɔnsɔnkɔnsɔn a eda wɔn so afiri wɔn so, na wɔn a agye n'adi na wɔ de obuoa ama no na w'abua no na wɔn adi zhan a y'asane aka no ho no saa nkɔnfoɔ no ne nkonimdifoɔ.} [Suuratu Al-Araf 157]

Na Zkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Oh Aihyatu esipi se Onyankropɔn ye mmerɛ na Zpe nneye a eye mmerɛ na Zma ho akatua a Zmma saa akatua no wɔ aneedene so, anaa adefoforɔ bi so).Musilimu Nhoma 2593

Na Zkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nokore Onyame Allaah aye akyirewadee bi amamɔ: anidee subae bone wɔ mɔ awufɔɔ nom so ena mɔnba nmaa nom entetiee bone ena nma mɔnkyere wɔnnom ena entae zɔɔ ena yapɔ ama mɔ efiri yesii ne mesii ene asenbosa dodɔɔ ene sika agyapadie seiyye >>Bukhari Nwoma mo 2408.

Na Zkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Mo nkɔ turo no mu gye mo wɔ gyedie, Na mo nya gyedie nso gye mo dodɔ mo ho, Enti me nkyere mo ade a se mo ye a, mo be dodɔ mo ho? Mo nfa asomdwoe nkyeakyea mo ho.Musilimu Nhoma 54

32. Nkramosom rehye Nipa suban pa tese nokware, ahwesodee ho banbo, nhyesoo, fere, akukuduro, adye, obuo mmaborohu nii mmua, onnibie mmua ne Obi a kom de no mmua, na fa suban pa ne won a ete ben wo ntena, Na srasra w'abusua, na hu mmua mmabo.

Nkramosom rehye Nipa suban pa Dokomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Esipi se ye somaa me se me nhye subanpa ma pere)Adabaul Mufrad Nhoma 207 Na Dokomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Esipi se mo mu dee me do no,dee ben me tenabea atemmuada ye dee wo subanpa, Na esipi se mo mu dee mempe no,na wo akyirikyiri atemmuada ye won a eka aseresem,won a edi Nipa ho few, won a etu won ho, Asuafo busaa se: yenim mienu a edinkan no,Na hwan ne won a etu won ho? Na Dkaa se: won a eye akasesem).Silsilatu Sahiha 791

Abdullah Umar ba Onyame ngye won tum akase: Dokomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nni subanfo na Onka kasafo, Na Drekase: Esipi se mo mu Nipa pa ye dee kyen mo suban pa.Al-Buhari Nhoma 3559

Ne aforo a aka wo Onyame nsem ne Dokomhyeni nsem a erekyere se Nkramosom rehye nkuranhye fa suban pa ne dwumadi pa ahorow nyina ara ho. Na nne Nkramosom rehye bi nso ne nokwardie,Dokomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Eye nhye wo mo so se moka nokware, Na esipi se nokware tane Nipa ko papaye, Na esipi se papaye tene ko turo no mu, Na Onipa be koso aka

nokware Na ɔbe pe nokware kɔrim se yɛbe twere ne den wo Onyame nkyen se Nokwarefoɔ).Musilimu Nhoma 2607

Na neɛ Nkramosom rehyɛ bi ne se Nipa nfa ahwesodeɛ mma ne wura, Onyame krɔnkɔn nii No akase:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴾ [النساء: 58]

{ Esipi se Onyankopɔn rehyɛ Onipa se wɔn nfa nhwesodeɛ mma wɔn ɛwɔ wɔn....} [Suura An-Nisa: 58]

Na nne Nkramosom rehyɛ bi nso ne nhyesoɔ,Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Nipa mmiensa asedeɛ da Onyame so se Ɔbe bua wɔn, Na Ɔkaa Awarefoɔ a, wɔn pe se wɔhyɛ wɔn ho so.Sunan At-Tirmizi Nhoma 1655

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no mpaebɔ bi ne se Ɔrekase:Me Wura me hwewhwe teneneɛ ne Nyame soro, ne nhyesoɔ ne ahonyadeɛ firi wo nkyen.Musilimu Nhoma 2721

Na neɛ Nkramosom rehyɛ bi ne fereɛ, Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Fereɛ nfa biribiara mma gye adɛpa nko ara).Buhari Nhoma 6117

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Ɔsom biara wɔ suban na Nkramosom suban ye fereɛ).Al-Baihaki Nhoma Hyiibul Imaan 6/2619

Na neɛ Nkramosom rehyɛ bi ne akukuduro, Na Anas Nyame ngye no ntum ma yen kasa se:Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ne Nipa mu papa, Nipa mu kukudurofoɔ, Nipa mu adɔyefoɔ,Na nokware Madina manfoɔ

bɔɔ ho bere a wɔn hu sɛ Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no adinkan wɔ pɔnkɔ foro mu. Buhari Nhoma 2820

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no hwehwe banbɔ firi Onyame nkyen fa soro ho na ɔtaa reka sɛ: (Me Wura me hwehwe ntwutwagyee wɔ wo nkyen firi Soro ho). Al-Buhari Nhoma 6374

Na nee Nkramosom rehye bi ne sɛ adɔye ne obuɔ, Onyame krɔnkɔn nii No akasɛ:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261]

{Obi a, Ɖyi ne sika wɔ Nyame kwan so nfantho tese aduaba baako a, aififi ayi nnua nson, Na dua baako biara no nnuaba ɔha na wɔ so, Na Onyankopɔn Allah ye no mmɔho ma Obi a Ɖpe, Na Onyankopɔn Allah ye nimdifoo a ne nimdie treyie.} [Al-Bakara 261]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no suban ne sɛ ɔye adɔye, Na Abas ba Onyame ngye wɔn tum akasɛ: Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ye adɔye sene Nipa biara, Na bere a, na ɔKye adee yie ye Akɔmkyene Bosome no mu bere a, Ɖhyea Ɖbɔfoɔ Gabera, Na Ɖbɔfoɔ Gabera Onyame asomdwoe nka no hyea Ɖkɔmhyeni wɔ anadwo biara wɔ Akɔmkyene Bosome mu, ma Ɖkɔmhyeni kenkan Kuran Nhoma no ma no tie kɔpim sɛ Bosome no be wo, Na sɛ Ɖbɔfoɔ no bɛ hyea Ɖkɔmhyeni a Ɖye papaye ne adɔye sene nframa. Al-Buhari Nhoma 1902

Nkramosom rehye Nipa suban pa tese mmaborohu nii mmua, onnibie mmua ne Obi a kom de no mmua, na fa suban pa ne won a ete ben wo ntena, Na srasra w'abusua, na hu mmua mmobɔ. Na Abdullahi eye Amuru ba Onyame ngye won tum akase: Aberantee bi busa Dokomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se: Suban ben na eye na edimu wo Nkramosom mu? Dkaa se: Wo be ma dee ekom de no aduane, Na wakyea dee wo nim no ne dee wo nnim no. Buhari Nhoma 12

Na Dokomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: (Bere a Aberema bi nam kwan so reko, Nsukom yee dene wo ne so, na Onya Abura bi, Na Osii mu nom nsuo, Na Ofi mu na Ohuu Kraman a orehomi na oredi dotee enam nsukom nti, Na Aberantee no kaa se: nokware nsukom a aka Kraman yi te se nee kaa me, Na Osii Abura no mu bio saa nsuo wo ne mpaboa mu ma, de nano so mu pueye na Oma Kraman nsuo, Na Onyame hyiraa no de ne bone kyee no) Na asuafoɔ no busaa se: Enti ye wo nhyira wo mmua ho? Na Dkaa se: Aane, biribiara a ewo Akuma a mogya wo ho. Ibin Hibban Nhoma 544

Na Dokomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Obi a odi Okunafo ne Ohiani mmoa ho akoneaba no tese Obi a oko wo Nyame kwan so anaa Obi Ogyina ye asore anadwo na oye akomkyene awia. Buhari Nhoma 5353

Nkramosom resi Abusua asedee so dua, na waye Abusuafoɔ nsrahwe nhye wo Nipa so, Onyame kronkon nii No akase:

﴿التَّى أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾ [الأحزاب: 6]

{Ɔkɔmhyeni na agyidifoɔ dɔ no sene wɔn kra, Na n'ayerenom ye wɔn awofoɔ, Na abusuafoɔ nso ebi gyenabere sene bi wɔ Onyame Nhoma no mu, firi Agyidifoɔ ne Atukɔtenafoɔ, gye se mo di dwumadipa ma m'adɔfoɔ, Na wae ye nsem wɔ atwere Nhoma no mu.} [Suura Al-Ahزاب: 6]

Na wabɔ kɔkɔbɔ afa abusua ntamteteɛ ho na Ɔde totoo adesee ho, Onyame krɔnkɔn nii No akase:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾﴾ [محمد: 22-23]

{ Na mo pe se, mo twa mo ani, na mo dane mo akyi ma Nyame dwuma, Na mo dane Ɔsesesefoɔ wɔ Asase yi so na mo tete abusua ntam. Saa nkrɔnfoɔ ne wɔn a Onyame anome wɔn, aye wɔn osotifo, afera wɔn ani. } . [Suura Mohammed: 22-23]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: (Obi a ɔtete abusua ntam nkɔ Onyame turo no mu).Musilimu Nhoma 2556

Na Abusuafoɔ a,wɔn nsera ye nhye ne: Awofɔɔ, ne anuambarima, ne anuambea, ne papa nuabarima ne papa nuambea, ne wɔfa ne maame nua mbea.Na Nkramosom si ɔyɔnko ɔte ben wo asedeɛ so dua, se mpo ɔnye Kramo nii koraa:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36]

{Na mo nsom Onyankopɔn na ma mo nsom biribiara nka ne ho, na mo nye Awofɔɔ papa ne Abusua ne Ahiafɔɔ ne Abusuafoɔ a wɔn te ben wo, ne wɔn a emben wo, ne ɔyɔnko a ɔka wo ho wɔ akwantuo mu, ne ɔkwantuni ne mmaa a w'anya wɔn ako akyi, Esipi se Onyankopɔn mpe obibiara a ɔye akasesem na ɔtu ne ho.} [Suura An-Nisa: 36]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Ɖbɔfɔɔ gabra kɔɔ so kaa afutusem kyerɛɛ me wɔ nee te ben me, Kɔpim se me susu se Ɖbe di m'adeɛ.Abu Dawud 5152.

33. Nkramosom ama adepa ho kwan, wɔ nnuane ne anonenom ahorɔɔ, Na ahyɛ akoma ne honam ne efie Ahonidie, Na enam saa nti.

Nkramosom ama adepa ho kwan, wɔ nnuane ne anonenom ahorɔɔ, Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Oh Onipa eii esipi se Onyankopɔn Allah hoteɛ nii na Ɖmpe biribiara gye deɛ ho nte, Na esipi se Onyame ahyɛ agyidifoɔ adeɛ a wahye Asomafoɔ na Ɖkaa se: {Oh Asomafoɔ eii mo ni nnuanepa, Na mo ye dwumadipa, Esipi se me wɔ nimdie wɔ ade a mo reye nyina ho}.na Onyankopɔn krɔnkrɔn aka se: {Oh Agyidifoɔ eii mo ni nnuane pa a ye de adom mo, Na mo nfa aseda mma Onyame se Ɖno na mo som no wɔ nokware mu deɛ} Ɖse: afae barimaa bi ho asem a ɔwo akwantuo tentee mu, Ne tiri ho aye fi ne ho aye nfuturo,

n'aduane ye akyiwade, ne ntaade ye akyiwade, na nsuo nso ye akyiwade na akyiwadee na tetee no, na ebesiden na y'agye ne mpaebɔ. Musilimu Nhoma 1015

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32]

{Ka se hwan na aye Onyame afefede a ɔde adom ne nkoa akyiwade ne ne neema pa wɔ Onyame adom mu, Ka se ewo ho ma Agyidifo wɔ wiasa asetena mu titirw atemmuada, saa ara na ye ye nsenkyerene no nkyerɛkyere ma edom a wɔn wɔ nimdie.} [Suura Al-Aaraf: 32]

Nkramosom ahye Nipa Ahonidie, Akoma ne honam ne efie Ahonidie, enam saa nti Nkramosom ama awaree ho kwan, tese sɛdeɛ wahye Akomhyefo ne Asomafɔ Onyame asomdwoe nka wɔn, Na wɔn rehye apapafɔ awaree, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَدَّةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: 72]

{ Na Onyankɔrɔn bɔɔ mo hokafo firii mo mu, Na Ɔbɔɔ mo mma ne mo nananom firii mo hokafo mu, Na w'aye mo adom wɔ n'adom pa no mu, nti nkontompo na mo gyedie na Onyame adom na mo yi so bɔneae } [Suura An-Nahal: 72]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَتِيَابِكَ فَطَهَّرَ ۝ وَالرَّجْرَ فَأَهْجَرُ ۝﴾ [المدثر: 4-5]

{ Na w'ataadeε nso teho. Na Abosomsom nso twe wo ho firi ho!" } [Suura Al-Muddasir: 4-5]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Obi biara a akeseɛm kakra wɔ n'akuma mu nkɔ Onyame turo no mu. Abiranteε bi kaa se: Obi biara pε se n'ataade ne ne mpaboa ye papa, Ɖkɔmhyeni kaa se: Esipi se Onyankopɔn ho ye fe na Ɖpε ade a eyε fe, mmom akeseɛm ne se Obi bε po nokware na Ɖmmu Nipa.Musilimu Nhoma 91

34. Nkramosom abra akyiwadeε nyina ahyaseε te se Onyame mmataho ne bonniaye ne abosomsom ne ntwantosɔ wɔ Onyame so wɔ bere a wo nnim, ne mmɔfra akumkum akumkum, ne kra a Onyame aye no akyiwade kum, ne Asase yi so aseeseε, ne nkonyayie ne nsembɔne neε adεedi ne neε asuma, ne adwaman ne Berema ne Berema anaa ɔbaa ne ɔbaa nokutahodie, na wayε nsiho akyiwade, aye Aboafunu nam akyiwade, ne aboa a wɔkum ma abosom, na wayε prakonam akyiwade ne efi ne adebɔne ahorɔɔ a aka, na wayε Agyanka sika akyiwade ne ntesɔɔ wɔ nsenia mu, na wayε Abusuafoɔ ntetemu akyiwade. Na Asomafoɔ nyina ara abra saa akyiwadeε ahorɔɔ yi nyina ara.

Nkramosom abra akyiwadeε nyina ahyaseε te se Onyame mmataho, ne Bonniaye ne Abosomsom ne ntwantosɔ wɔ Onyame so ne mmɔfra kum, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَزْرُفِكُمْ وَإِيَاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَمَا بَطْنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾ [الأنعام: 151-152]

{Na ma mo pinkyɛn Agyanka sika gye kwanpa so kɔpim sɛ wɔn bɛduru mpanin fie so, Na mo nhyɛ nsenia ma pɛrɛpɛrɛ, Na yɛ nhyɛ kra biara gye nɛɛ ɔtumiye, na sɛ mo kasa a mo nyɛ pɛrɛpɛrɛ sɛ ɛfa Abusuani ho mpo a, na mo nhyɛ Onyame bɔhyɛ ma, wae ne afutusem a Onyame aka sɛdɛɛ bɛ yɛ a mo de bɛ yɛ nkaekaeɛ.} [Suura Al-Anaam 151-152]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالنَّبْعَى ۖ بَعِيرًا حَقٌّ ۖ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف: 33]

{ Ka sɛ ɛsipi sɛ me Wura ayɛ nsɛmfɔ akyiwade nɛɛ adɛɛdi ne nɛɛ asuma, ne bɔne ne asisie, ne sɛ mo bɛ som biribi a enni nyinasɔɔ biara aka Onyame ho, ne sɛ mo bɛ ka nɛɛ mo nni hɔ nimdie afa Onyankɔpɔn ho } [Suura Al-Aaraf: 33]

Nkramosom ayɛ Nipakum akyiwade, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِءَ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾﴾ [الإسراء: 33]

{Na ma mo nkum kra a Onyame ayɛ no akyiwade gye nokware kwan so, na Obi kum ne yɔnko wɔ sisie kwan so a, y'ama Owufɔɔ adɔfo tumi sɛ wɔn bɛ kum no bi, na mmom

ma wɔn ntra hyee ekum no mu, esipi se ɔye Obi a y'abua no..} [Suura Al-Isra: 33]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ ﴾ [الفرقان: 68]

{...Ne wɔn a wɔn nfre Onyame biara nka Onyankopɔn Allah ho, na wɔn nkum kra a Onyame aye no akyiwade gye nokware kwan so na wɔn mmɔ adwaman nso, Na Obibiara a ɔye saa ndwumadie yi be nya ho asotwe atemmud.} [Suura Al-Furkan: 68]

Nkramosom aye Ɔsesese wɔ Asase yi so akyiwade, Onyame krɔnkɔni Nɔ akase:

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا... ﴾ [الأعراف: 56]

{ Na ma mo nye asesesefo wɔ Asase so bere a ayeyie akyi.} [Suura Al-Aaraf :56]

وقال الله تعالى مخبراً عن النبي شعيب عليه السلام أن قال لقومه:

Onyame krɔnkɔni No aka nsem a efa Ɔkɔmhyeni (hyu-ayibu) ho Onyame asomdwoe nka no, wɔ bere a Ɔka kyere ne dɔm se:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾ [الأعراف: 85]

{Oh medom menkrufo yi mɔnsom Allaah na enye adee mɔho adesom bi efiri nakyi,Nokore me de nokware engyinaso pefee afiri mɔ Awurade ho abre mɔ, Na senti mɔnhye ensenua no ema ene ensusuye,ena Nma mɔ ntesu mma nipa nom dwumadie ena nma mɔ sei asaase yi ewo nensiesie akyi, Saa nɔ eye adepa ema mɔ na se mooye agyediefɔ a.} [Suura A'raf: 85]

Nkramosom aye nkonyaayie akyiwade, Onyame krɔnkɔni nokwarefo hoteeni no aka se:

﴿وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69]

{ To wo nsam abaa no toho ebemene nee wɔn aye no, esipi se nee wɔn aye yi, ye nkonyayifo pɔbɔne, Na nkonyayini nni nkunimdie wɔ baabi biara a ɔbe firi aba.} [Suura Taha 69]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Mo ntwe mo ho nfiri ade nso a, esee Nipa na asuafo no kaa se: Ɔkɔmhyeni ade ben nono? Ɔkaa se: abosomsom ne nkonyayie, ne Nipakum a Onyame aye no akyiwade gye nokware kwan so, ne nsihodie, Agyanka sikadie, ne akomu mmirikatuo,ne adwaman nkontompo wɔ agyidifo mmaa ahotesfo a wɔ bɔ wɔn ho ban).Buhari Nhoma 6857Nkramosom abra nsemfo nee adɛedi ne nee asuma, ne adwaman ne Berima ne Berima ne Ɔbaa ne Ɔbaa nokutahodie, na Onyame nsem a efa saa nwumabɔne yi adinkan aba wɔ krata yi mu, na Nkramosom aye nsiho akyiwade, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾ [البقرة: 278-279]

{ Oh Agyidifoɔ eii mo nsuro Onyankopɔn na mo nya mo sika a aka Nipa nkyen a eye nsiho, se mo ye agyidifoɔ a mo gye Onyame nhyehyee tumu (278)Na se ye asoɔdene na mo gye nsiho a, mo nhu se mo ne Onyame ne ne kɔmyeni wɔ ako kɛsɛɛ, na se mo sakyera a, na gyae nsiho gyegye deɛ a mo dwatere wɔ mo, Na mo nsisi Obiara saa ara na Obi nso nsisi mo(279).} [Suura Al-Bakara 278-279]

Onyankopɔn ammo Obi a cyɛ bɔne kɔkɔ tɛsɛ Obi a ɔdi nsiho; efiri se nsiho sɛɛ esom ne kuro, ne sika ne Onipa kra.Nkramosom aye Aboafunu nam akyiwade, ne aboa a wɔkum ma abosom, na wayɛ prakonam akyiwade, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّبْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ... ﴿٣﴾﴾ [المائدة: 3]

{Y'aye Aboafunu nam akyiwade wɔ mo so ne mogya ne prakonam ne enam a wɔn ammo wɔ so, na Aboa wamia nekɔn ma no awuo, ne neɛ wɔde ade abɔ no ma no awuo, ne neɛ ɔfiri soro abɔ fam awuo, ne neɛ ne yɔnko abeɛɛn aku no, ne neɛ Aboa tɛsɛ gyata akum no gye deɛ wanwu na mo akum no, ne neɛ wɔn akum ama Abosom, ɛna se mo be hwɛhwɛ adom a y'ahyehye ama mo wɔ abisa kwan so, ade yi nyina ara ye asoɔdene na eye bɔne) [Suuratu Al-Maida: 3]

Nkramosom aye nsanom ne efi ahoroɔ nyina akyiwade, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ [المائدة: 90-91] ﴾

{ Oh Agyidifoɔ eii esipi se eye nsanom ne kyakya ne abosomsom ne abisa, ade yi nyina ye tan na ɔbonsam (Satan) nsa ano dwuma, nti mo nfiri ho sedee ebe ye a mo be di nkunimdie (90) Esipi se ɔbonsam pe se ɔde ɔtan ne abufuo ba montam wo nsanom ne kyakyaɔɔ mu, na wabra mo Onyame nkaekaeɛ ne Nyame fre (Asore), nti mo ngyae (nsanom ne kyakyaɔɔ)(91).} [Suura Al-Maida 90-91]

Kratafa a etso (31) mu Onyankopɔn aka ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahyensodee bi wo apam dadaa mu se ɔye adetantan ne efi ahoroɔ nyina akyiwade, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّوَىَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ... ﴿١٥٧﴾ [الأعراف: 157] ﴾

{Wɔn a wo di ɔsomafoɔ ɔkɔmhyeni no akyi a ɔnnim akenkan na ɔwo ɔn atweresem no mu ɔwo apam dadaa ne apam mono mu chyɛ ɔn papaye na ɔbra ɔn bonniaye na ɔma ɔn adɛpa ho kwan na ɔye adefe akyiwadeɛ ma ɔn na ɔyi ɔn adesua ne nkɔnsɔnkɔnsɔn a ɛda ɔn so afiri ɔn so, na ɔn a agye n'adi na ɔwo de obuo ama no na w'abua no na

wɔn adi ɔhan a y'asane aka no ho no saa nkrɔnfɔɔ no ne nkonimdifɔɔ.} [Suuratu Al-Araf 157]

Nkramosom aye Nipakum akyiwade, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ وَأَتُوا الِيتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ [النساء: 2]

{ Mo nyanka sika ma wɔn se wɔn du wɔn mpanin fie so, na ma mo nfa bone nsesa papa, Na ma nni wɔn sika nka mo sika ho, esipi se eye bone kesee.} [Suura An-Nisa 2]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الِيتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ [النساء: 10]

{ Esipi se wɔn a edi Agyanka sika wɔ siesie kwan so, eye ogya nko ara na wɔn redi gu wɔn yam, na enkye koraa wɔn be ko (Sa-ir) Ogya daree no mu.} [Suura An-Nisa 10]

Nkramosom aye nsanie ntisoɔ akyiwade, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿ وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّرَئِهِمْ يُخْسِرُونَ ﴿٥﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٦﴾ [المطففين: 4-6]

{ Due ne ɔseee wɔ asisifoɔ (1)Wɔn a se wɔ to firi Nipa nkyen a wɔ hye nsanie ma perepere (2)Na bere a wɔn betɔn ama Obi no, na wɔn ate nsenie no so (3)Nti wɔn a eye dwumadi bone yi nnim pefee se esipi se ye be nyane wɔn wɔ wusɔree da atemmuada abu wɔn nkuntabuo (4)" } [Suura Al-Mutaffifiin 1-4]

Nkramosom aye Abusua ntetemu akyiwade na y'aka asem yi wo kratafa (31) Onyame nsem ne Ɖkɔmhyeni nsem a erekyere saa, na Akɔmyefoɔ ne Asomafoɔ Onyame asomdwoe nka wɔn, wɔn nyina ara abra nkyiwade yi

35. Nkramosom rebra suban bɔne tese Nkontompofo ne Asisie ne Ɖhaw ne Hwɛmmɔdie ne Nnaadaa ne Anibere ne Tu obi tiri so agyina ne Krɔno ne Akasesem ne asesie, na Nkramosom rebra suban tantan.

Nkramosom rebra suban bɔne nyina ara, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: 18]

{Entwa wo ani nfiri Nipa ho bere a wo kasa wɔn ho anaa se wo kasa kyere wo a, na mma w'ani nsa wɔn nye akasesem, na ennante Asase yi so wo akasesem mu, Esipi se Onyankopɔn mpe obibiara a Ɖma ne ho so wo Nipa so na Ɖde Nipa ho fewdie.}[Suura Lukman 18]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Esipi se mo mu dee me dɔ no, dee ben me tenabea atemmuada ye dee wo subanpa, Na esipi se mo mu dee mempe no, na ɔwo akyirikyiri atemmuada ye wɔn a eka aseresem, wɔn a edi Nipa ho few, wɔn a etu wɔn ho, Asuafoɔ busaa se: yenim mienu a edinkan no, Na hwan ne wɔn a etu wɔn ho? Na Ɖkaa se: wɔn a eye akasesem)Silsilatu Sahiha 791.

﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ [غافر: 28]

Nkramosom rebra Nipa nkontompo sem, Onyame krɔnkɔnii No akase:

{ Esipi se Onyankopɔn Allah ntene Obi a ɔye seesefoo nkontompo ni.} [Suura Gafir 28]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Eye nhye wɔ mo so se moka nokware, Na esipi se nokware tane Nipa kɔ papaye, Na esipi se papaye tene kɔ turo no mu, Na Onipa be kɔso aka nokware Na ɔbe pe nokware kɔrim se yɛbe twere ne den wɔ Onyame nkyen se Nokwarefoɔ).Musilimu Nhoma 2607

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Nyaatwumfoɔ ahyensodee ye miensa wɔn kasa ye nkontomposem, wɔn hyebo a na wɔn abuso, na wo gye wɔn di a na wadi wo hwemmɔ).Buhari Nhoma 6095

Nkramosom rebra Nipa asisieEbaa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nsem mu se, bere bi Ɔfaa Aduane bi ho na Obi retɔn na Ɔde ne nsa hyee mu ma ne nsa foɔye, na Ɔkaa se: Aduane wura eii edeen nie? Ɔkaa se: Nsuo tɔ guu so Onyame Somafoɔ, Ɔkɔmhyeni kaa se: nka wo de dee afɔ no guu soro sedee Nipa be hu, Obibiara a Ɔbe sisi ye no Ɔnka ye dɔm yi ho.Musilimu Nhoma 102

Nkramosom rebra Asisie, Hwemmɔdie ne ndaadaa Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]

{ Oh Agyidifoɔ eii mo nni nokware ma Onyame ne ne Kɔmhyeni na, ma mo ndi wɔn hwemmɔ, na mo adi mo ho hwemmɔ wɔn mo Nyamesom mu, wɔ bere a mo nim trodoo } [Suura Al-Anfaal]

Na waka se:

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: 20]

{ "... Wɔn a wɔdi Onyame bɔhye so na wɔhye no ma, na wɔn mmu bɔhye so. } [Suura Ar-Rad]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ka kyerɛ n'sraafɔɔ bere wɔn rekɔ ako se: Mo nko wɔ Onyame din mu, ma mo nni Obi hwemmɔ, ma mo mmu mo bɔhye so, na ma mo ntwetwa Owufɔɔ, ma mo nkum abɔfra. Musilimu Nhoma 1731

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Suban nnan yi Obibiara a eye ne suban no Ɖye nyaatwumfɔɔ kɔnkɔnsa ni pefee na Obi a baako ye suban no kɔnkɔnsafɔɔ suban wɔ ne mu kɔrim se Ɖbe gyea: se wo nya awerɛhyemu wɔ ne mu a, na wade wo hwemmɔ, Na se ɔkasa a, eye nkontompo, na se Ɖhye bɔ a, na wabuso, na se ɔko ntɔkwa a ɔngyae. Buhari Nhoma 34 Nkramosom rebra ahoɔyaa suban, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 54]

{ Anaa wɔn ye Nipa ho ahoɔyaa wɔ deɛ Onyame de ama wɔn wɔ n'adum mu, nokware y'ama Abraham asefɔɔ Nhoma

ne adwen ne nyansa, na y'ama wɔn ahennie kɛsɛɛ.} [Suura An-Nisa 54]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسِيدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾﴾ [البقرة: 109]

{Nhomafɔw (Akristofo ne jewfo) pii pɛ sɛ wɔn bɛ ma mo asan akɔ mo bɔne mu bio (Abosomsom) enam wɔn ahɔɔyaa nti, bere a adɛɛdi ama wɔn sɛ deɛ Ɖkɔmhyeni de aba no ye nokware trodoo, Agyidifɔw eii mo nfa wɔn mfɔmsɔ nkyɛ wɔn na mo werɛmfi wɔn nneɛ kɔpim sɛ Onyame nkyekyɛ bɛ ba wɔn so, ɛsipi sɛ Onyankɔpɔn wɔ biribiara so tumi} [Suura Al-Bakara 109]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:<< ɔmɔ subae bonee fii wɔ mɔsu ye kaniifɔw no ɛdom subae ansaana mɔɔba: ahɔɔyaa ɛne ɛtae ɛye 'haalikqa' na menkasɛ ɛtirenwee ɛye na ɛmom ɛye ɛsom seiyyɛ ɛyefiri ho ɛna mede deɛ mekiraa ɛhyɛ nensam sɛ ɛnyɛ adeɛ mɔ bɛwura asorohemaamo algyanna ɛkwɔpim sɛ mɔbɛya gyedie ɛna ɛnyɛ adeɛ mɔbɛya gyedie ɛkwɔpim sɛ mɔbɛdɔ mɔɔhɔ asenti menkyire mɔ ɛfa adeɛ a ɛbetimtim wɔ saa su amamɔ? mɔnpete asomdwie nkyia 'Salaam' ɛwɔ mɔntem >>Sunan At-Tirmizi Nhoma 2510

Nkramosom rebra ɛpɔɔɔne, Onyame kokroko No akasɛ:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا جُرْمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾ [الأنعام: 123]

{Na sɛdɛɛ (Makah) kuromfoɔ si Nyamesɛm ho kwan no, saa ara pɛpɛɛ na ɛdɔm biara mu yɛ yɛ atitiriwfoɔ nkurofo a wɔn frɛ kɔ bɔne so na wɔn si Nyamesɛm ho kwan na wɔn ko tea Asomafoɔ, Nanso wɔn pɔbɔnee no sanbɔ wɔn ara, na mmom wɔn nhu saa ɛnam sɛ wɔn nnimbiribiara na wɔdi wɔn apɛdɛɛ akɔi.} [Suura Al-Anam 123]

Na Onyame kokroko abɔ amanɛɛ sɛ (jew) dɔm no bɔɔ mmɔden sɛ wɔ bɛ kum Yesu (Jesus) Onyame asomdwoe nka no, na wɔn bɔɔ ɛpɔbɔne mmom Onyame sɛɛ wɔn pɔ no, na Onyame kyere sɛ pɔbɔne nfata obibiara gye wɔn a ɛbɔ pɔbɔne, Onyame kokroko No akasɛ:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرُوهًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴿٥٤﴾﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [آل عمران: 52-55]

{Bere a Yesu (Jesus) hu sɛ wɔn Atimtim wɔ bɔne mu no, ɔka kyere wɔn sɛ: hwan na bɛ bua me wɔ Onyame dawubɔ yi mu? Ne yɔnkɔfo nokwarefo kaa sɛ: yen na bɛ bua Onyame dawubɔ, yɛ agye Onyame atum, na di adanseɛ sɛ, ɛsɪpi sɛ yɛ yɛ Nkramofoɔ(52) Oh yɛ Wura y'agye neɛ wasane no atum na y'adi ɔsomafoɔ no akɔi ɛnam eyi nti twere yen ka adansedifoɔ ho (53) Na wɔn bɔɔ pɔbɔne na Onyankɔpɔn sɛɛ wɔn pɔbɔne no, na Onyankɔpɔn nim pɔbɔne biribiara wɔ rebɔ (54)Kae bere Onyankɔpɔn kaa sɛ: Yesu (Jesus) eii mɛfa wo na mɛma wo so wɔ honam ne sonsom mu aba me nkyɛn, mɛte wo ho ayi wo afiri bɔniayɛfoɔ mu, na mɛma wɔn a adi

wo Ɖkɔmhyeni Mohammed akyi no so asene wɔn a eye bonniayefoɔ kɔpim atemmuada, Bio me nkyen na mo be sane aba na m'abua mu aten wɔ nee na mo gye ho akyenyedie no(55).} [Suura Aali-Imraan 52-55.]

Na Onyame kokroko abɔ amanee se: Onyame Kɔmhyeni (Sualah) Nyame asomdwoe nka no dɔm no bɔɔ mmɔden se wɔ be kum no,na wɔn bɔɔ pɔbɔne, na Onyankopɔn see wɔn bɔɔ epɔbɔne esee wɔn ne wɔn dɔm nyina ara, Onyame kokroko No akase:

﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٥١﴾ وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرًا أَوْ مَكْرَتًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٣﴾﴾ [النمل: 49-51]

{ Na wɔn ka kyere yɔnkɔɔ se: Obiara nni nse nkyere ne yɔnko se, ye be tu ahye Onyame Somafoɔ Sualah) so ne n'abusua pɔrekoɔ na y'akum wɔn, Na y'aka akyere n'abusua se, ye nni hɔ wɔ rekum no, na ye ye nokwarefoɔ (49)Na wɔn abɔ pɔbɔne afa agyidifoɔ ho, na y'abɔ pɔ se yebe boa Agyidifoɔ, na wɔn nnim ho hwee (50)Na hwe sedee wɔn pɔbɔnee no awiei ase wɔn ene se y'asee wɔn ne wɔn dɔm nyina ara(51)..} [Suura An-Naml 49-51]

Nkramosom rebra Nipa nkontompo, Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Dwamanbɔ ni mmɔ adwaman wɔ bere a Ɖye gyidie ni, Na Owifo mmɔ Krɔno wɔ bere a Ɖye gyidie ni, Na kɔwinsa ni nnom nsa wɔ bere a Ɖye gyidie ni, Na adwene sakra epono mu abue daho ma Obibiara.Al-Buhari Nhoma 6810Nkramosom rebra Nipa asisie, Onyame kokroko No akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90]

{ Esipi se Onyankopɔn rehye Nipa pɛrɛpɛrɛyɔ papayɛ, ne n'abusua a wɔn ben no papayɛ, Na Ɖrebra Nipa nsemfo ne bɔne ne asisie, Onyame retu mo afutuo sɛdeɛ ɛbɛ yɛ a mo bɛ kaekae.} [Suura An-Nahal]

Na Ɖkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:Esipi se Onyankopɔn ahyɛ me nkɔm sɛ mo mbra mo ase, sɛdeɛ ɛbɛ yɛ a Obi nsisi Obi, na Obi nye akɛsesɛm wɔ Obi so.Abu Dawud 4895Nkramosom rebra Asisie,Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿...وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 57]

{ Na Onyankopɔn Allah no Ɖmpɛ Asisifoɔ asem.} [Suuratu Al-Imrana 57]

Na waka sɛ:

﴿...إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 21]

{ Esipi se Asisifoɔ nni nkunimdie dabiara da.!" } [Suura Al-Anam 21]

Na waka sɛ:

﴿... وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان: 31]

{".. Na Onyame asiesie asotwe a ɛyɛyaw ato Asisifoɔ ho atɛmmuada.(Ní ti) àwɔnalábòsí, Ó sì pèsè iyà ɛlɛta-elérosilè dè wɔn.} [Suura Al-Insan 31]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Nipa miensa mpaebɔ nye kwa: Ɖkandinii pɛrɛpɛreni, Obi a, Ɖkyere kɔm kɔpim sɛ ɔbɛ gu akɔmkyere no, ne Obi a, wasisi no mpaebɔ, yɛma so to ɛbɔ so na y'abue Ɖsoro akwan nyina ara, Na Onyankopɔn tumi wura akase : me de me tumi dinse, esipi sɛ mɛgye wo frɛ so abua wo mpo sɛ ɛkye koraa.Muslimu Nhoma 2749 nsesamu kakra,Tirmizi Nhoma 2526 nsesamu kakra,Ahmed Nhoma8043 na eyi ne Nsem.

Na bere a Ɖsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no sumaa Muaz kɔɔ Yemen kuro mu no, na neɛ Ɖka kyere no bi ne se:Na suro Obi a w'asisi no mpaebɔ, esipi sɛ ban biara nni ɛne Onyame ntam.Buhari Nhoma 1496

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Mo nhunu sɛ Obi a ɔbɛ sisi Obi a y'ahye no bɔ, anaase ɔbɛ te n'asɛdeɛ so, anaase ɔbɛ hyeno neɛ ɔntumi nyo, anaase ɔbɛ gye biribi afiri ne nkyɛn wɔ bere a ɛnye ɔno ara nade akyɛ no, ɛye me na bɛ ye ne ngyinasoɔ ɛda atɛmmuada.Sunan Abii Daud 3052.

36. Nkramosom rebra nsiho wɔ sika dwuma biara mu, anaase ɔhaw anaase nnaadaa, anaase asisie anaa neɛ de ɔsɛɛ ne ɔhaw biara ba mantamu, abusua ne Nipa so.

Nkramosom rebra nsiho wɔ sika dwuma biara mu, anaase ɔhaw anaase nnaadaa, anaase asisie anaa neɛ de ɔsɛɛ ne ɔhaw biara ba mantamu, abusua ne Nipa so.Na Onyame ne Ɖkɔmhyeni nsem adinkan wɔ kratafa yi mu a ɛrebra nsiho

anaase asisie anaase apoobo anaase Asase yi so aseese, Onyame kokroko No aka se:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعِيرٍ مَا كَتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]

{ Na won wo ha agyidifoɔ mmerima ne agyidifoɔ mmaa ka bone nsem to won a enye bone a won aye no, nokware won asua nkontompo ne bone adaade pefe.} [Suura Al-Ahzab 58]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]

{ Obibiara a ɔbe di dwumadipa no ɔdi ma ne kra, na Obibiara nso a ɔdi dwumadi bone no ɔdi tia ne kra, na wo Wura Nyankopɔn nnye sisifoɔ de ma n'akoa.} [Suura Fussilat:46]

Aba ɔkɔmhyeni nkyerɛkyere (Sunnah) mu se, (ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no apua se ma Obibiara nha ne kra anaa ne yɔnk).Sunan Abii DaudNa ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Obibiara a ɔgye Nyame die ne atemmuada no ma no nha nee ɔte ben no, na Obi a ɔgye Nyame die ne atemmuada no ɔnfa Obuo ma ne srasrafo, Obi ɔgye Nyame ne atemmuada die no ɔnka kasapa, anaase ɔnyedeen. Nsem foforo mu: ɔnye Obi a ɔte ben no papa.Musilimu Nhoma 47

Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Ye twee ɔbaa bi aso enam Agyinamoɔ ho, ɔtoo no ponom kɔpim se owue, na ɔbaa yi kɔɔ bonsam gya mu,

wamma Agyinamoa no Aduane anaa nsuo bere a Ɔtoo no ponomu saa ara nso na wangyae no ma no anko didi wo Asase so).Al-Buhari Nhoma 3482

Wae ne Obi waha Agyinamoa na Obi a ɔɔɛ ha Nipa asotwe ne sɛn, na Umar ba barima aka sɛ: Ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no foro gyinaa ne kasabea Ɔmaa ne ne so kaa sɛ:Ɛye mo a mo de mo ketrema agye Nkramosom na gyidie nni mo akuma mu, ma mo nha Nkramofoɔ ma mo nka wɔn ho asem bɔne, na ma mo nhwehwe wɔn anim guasi, na esipi sɛ Obi a ɔɔɛ tu anamɔn ahwehwe ne yɔnko kramoni anim guasesem no Onyame bɛ hwehwe n'anim guase, na Obi a Nyame bɛ hwehwe n'anim guase no Ɔgu n'anim ase, na mpo sɛ eɛɛ nam ne fieni so koraa, Ɔkaa sɛ: ɛdabi Umar ba ahwe Nyame fie no anaase (kaaba) na Ɔkaa sɛ : wo gyinabea so na wo banbɔ so nanso Ogyidieni wɔ gyinabea ne banbɔ kɛsɛɛ wɔ Nyame nkyɛn sene wo.Tirmizi Nhoma (2032), Ibin Hibban Nhoma (5763)

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Obibiara a ɔgye Nyame die ne atɛmmuada no ma no nha neɛ ɔte bɛn no, na Obi a ɔgye Nyame die ne atɛmmuada no ɔnfa Obuo ma ne srasrafo, Obi ɔgye Nyame ne atɛmmuada die no Ɔnka kasapa, anaase ɔnyɛdeen.Buhari Nhoma 6018

Ye nyaa saa nsɛm yi firi Abi Huraera nkyɛn Ɔse: Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka sɛ: (Ɛnti mo nim Obi a Ɔnni hwee(Almuflis)?) Asuafoɔ kaa sɛ: Ɔye Obi a Ɔnni Sika (Diinaar) ne Noɔma, Ɔkɔmhyeni kaa sɛ : (Esipi sɛ Obi a Ɔnni hwee (Almuflis) wɔ me dɔm yi mu ne Obi a Ɔbɛba

atemmuada na Ɔde akɔmkyene ne asɔre ne ntotosɔɔ dudu (Zakat) ho nhyira aba nanso wadi wae atem na watwa ntwantosɔɔ ato wae so, na wadi wae sika, na yede no agyinaho na yayi eyi nyina afiri ne dwumadipa mu, na se ne nhyira nyina sa bere a wantua ne boɔne akatua nyina a, na y'agye wɔn a waye wɔn boɔne no boɔne aka ne boɔne ho afae na yato no ato Ogya no mu. Muslimu Nhoma 2581, Tirmizi Nhoma 2418, Ahmed 8029 na nsem ye ne nsem. Na Nyame Somafoɔ aka se: (Na Dua sene da kwan so a eha Nipa na berima bi yi firii kwan no so enam eyi nti Ɔkɔɔ turo no mu). Buhari Nhoma (652) ne n'asekyere, Muslimu Nhoma (1914) ebi perepere, Ibun Maaja Nhoma (3682), ne Ahmed Nhoma (10432) na eyi ye wɔn mienu nsem, Ɔhaw a eɔa kwan mu yie de Nipa kɔ turo no mu, Na Obi a ɔha Nipa sae wɔn asetena gyenabere ne sen?

37. Nkramosom bebɔɔ adwene ho ban beyee biribiara a ebese adwene biara akyiwade tese nsanom, na ama adwene gyinabea so, an aye no asedeɛ ngyinasoɔ, ayi no afiri nkontompo nkɔnsɔnkɔnsɔn ne abosomsom mu, Na Sumasem anaase mmera nni Nkramosom mu ewɔ edɔm pɔtee bi a dɔm foforo nka ho, Na ne mmera ne ne nhyehyee nyina ara ne adwenpa kɔpe na eye perepere ne nyansa ahwehwe de.

Nkramosom bebɔɔ adwene ho ban be pegyaa adwene gyinabere Nyame kokroko aka se:

﴿... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36]

{Esi pi se, nsemmisa wɔ ho ma ɔdasani biara fa deɛ ɔde n'aso tieɛ, ne deɛ ɔde n'ani hwe ne deɛ ɔɔ ho pɔ wɔ n'akoma mu fa papa anaa bɔne ho..} [Suura Al-Isra 36]

Nti eyɛ nhyɛ wɔ Onipa so se Ɔɔ n'adwen ho ban enam eyi nti Nkramosom ayɛ nsa ne nnu bɔne akyiwade, na y'aka nsa ho nsem wɔ kratafa (34) na Kuran Nhoma no mu nsem pii a efa nsanom ho no neɛ twa nsem no toɔ ye Okokroko no asem yi:

﴿...لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]

{... Sɛdeɛ ebe ye a mo be kɔ adwendwene mu adwene ho." } [Suura Al-Bakara 242]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 32]

{ Na wiase asetena yi nye biribiara gye aguro ne ahuhude, na esipi se awieɛ da fie no na ye papa, esombo ma wɔn a Ɔsuro Nyankopɔn, nti mo nfa nkɔ adwendwene mu ndwene ho } [Suura Al-Anam 32]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: 2]

{ Esipi se yen na yesanee Nhoma no se akenkan Nhoma wɔ Arab kasa mu ama mo sɛdeɛ ebe ye a mo de be kɔ adwendwene mu adwene ho.} [Suura Yusuf: 2]

Na Onyame kokroko ayɛ nkyerɛkyerɛ sɛ teneneɛ ne adwene Obi nni ho nfasoɔ gye wɔn a ɛyɛ anyansafo, na wɔn ne badwenbafo, Nyame kokroko aka sɛ:

﴿يُوتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]

{Ɔde adwene ne nyansa ma Obi a Ɔpɛ, Na Obi a yeɛɛ ma no adwene ne nyansa no nokware y'ama no papa pii, na pii ndwene ho gye anyansafo badwenbafo.} [Suura Al-Bakara: 269]

nam eyi nti Nkramosom ayɛ adwene ade a Ɔhyɛ nkyerɛkyerɛ nyina gyinaso Onyame Somafni no aka sɛ :Y'ama twerɛdua no so afiri Nipa miensa ho: Obi a wada kɔpim sɛ Ɔbɛ sɔre ne Abɔfra kɔpim sɛ Ɔbɛ nyin adu ne mpanin bere ne Ɔdamfo kɔpim sɛ n'adwen beba bio.Ɛbi wɔ Buhari Nhoma (5269), ntuaso wɔ Abu Daud Nhoma (4402) na eyi ye ne nsem, ne Tirmizi Nhoma (1423) na Nasaayi wɔ (Sunan Kubura) Nhoma (7346), ne Ahmed Nhoma (956) nsesaye kakra, Ne Ibun Maaja Nhoma (2042) teawa.Na wayi no afiri nkontompo nkɔnsɔnkɔnsɔn ne abosomsom mu Nyame kokroko aka dɔm pii ho nsem wɔ kwan a wɔn aso nkontompo aseresem mu na wɔn apo nokware a aba wɔn so firi Onyankopɔn nkyen

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: 23]

{Na sɛdeɛ nkorɔfo yi atwa wo so nkontompo, na wɔn de wɔn agya nom amamerɛ ayɛ ngyinasoɔ, y'ansoma Asomafoɔ wɔ w'ananim wɔ kuro bi mu sɛ Somafoɔ a Ɔbɔ ne dɔm kɔkɔ gye

wɔn kandefo akasesemfo wɔ asikafo ka kyere no se: ye nyaa y'agye nom wɔ saa kwan yi so, na esipi se ye nam wɔn kwan no so..} [Suura Az-Zukhruf: 23]

Onyame krɔnkɔni No aka nsem a efa Ɔkɔmhyeni (hyu-ayibu) ho Onyame asomdwoe nka no, wɔ bere a Ɔka kyere ne dɔm se:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾﴾ [الأنبياء: 53-52]

{ Edeɛn ne saa mfonini yi a mo te ho esom berebiara (52) Wɔn kaa se: Ye nyaa y'awofo se wɔn resom mfonini yi (53)} [Suura Al-Anbiya 52-53]

Na Nkramosom ba behyee Nipa se wɔn ngyae abosomsom na wɔn ntwe wɔn ho nfiri aseresem ne nkontompo a wɔ nyaa wɔn Awofɔɔ ne wɔn Nananom wɔ mu, na wɔn nni Asomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn kwan so. Sumasem anaase mmera nni Nkramosom mu ewɔ edɔm pɔtee bi a dɔm foforɔ nka ho. Ye busaa Ali Abi Taalib ba Onyame ngye no ntum ma yen, na Ɔye Ɔkɔmhyeni papa panyin ba berima, Ɔye Ɔkɔmhyeni babaa kunu se: nti Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ama mo nko biribi anaa? Na Ɔkaa se: Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no mma yen biribi a Nipa a aka nkaho bi gye me nkrante nnuraho yi, Ɔkaa se: na Ɔyii krataa bi y'atwere mu se: Onyame adome Obi a watwa Aboa ama biribi a enye Nyame, na Onyame adome Obi a wawia biabi wɔ Asase so, na Onyame adome Obi a wadome n'awofo,

Onyame adome Obi a wɔbɛ gye Nipa a ɔde biribi foforo hyehye nkramosom mu. Musilimu Nhoma 1978

Na Nkramosom mmera ne ne nhyehyee nyina ara ne adwene a ɛteapɔw kɔrɛrɛrɛ, na eye pɛrɛrɛrɛ ne nyansa kwan pɛrɛrɛ pɛ.

38. Na ɛsom ahorɔɔ eye yera som no, wɔn ɛdi akyire no ntee asee nhunu nsem a ɛne yɔnkɔɔ bɔ abera wɔ mu ne nsem adwene ngye ntum, anaase wɔn som mmerima a wɔdi som akyi na wɔn hunu sɛ ɛsom da adwene so, na adwene nni hwee fa ɛsom nteaseɛ ho, Wɔbere a Nkramosom afa Nyamesom sɛ hann a ɛɔ kwan ma adwene, na yerasom a aka no repɛ sɛ Onipa gyae n'adwen na ɔnni wɔn akyi saa ara, Na Nkramosom repɛ sɛ Onipa nkanya n'adwen sɛdeɛ ɛbɛ ye a ɔbɛ hunu nokware a ɛwɔ biribiara mu ne sɛdeɛ ɛteɛ.

Na ɛsom ahorɔɔ eye yera som no, wɔn ɛdi akyire no ntee asee nhunu nsem a ɛne yɔnkɔɔ bɔ abera wɔ mu ne nsem adwene ngye ntum, anaase wɔn som mmerima a wɔdi som akyi na wɔn hunu sɛ ɛsom da adwene so, na adwene nni hwee fa ɛsom nteaseɛ ho, Wɔbere a Nkramosom afa Nyamesom sɛ hann a ɛɔ kwan ma adwene, na yerasom a aka no repɛ sɛ Onipa gyae n'adwen na ɔnni wɔn akyi saa ara, Na Nkramosom repɛ sɛ Onipa nkanya n'adwen sɛdeɛ ɛbɛ ye a ɔbɛ hunu nokware a ɛwɔ biribiara mu ne sɛdeɛ ɛteɛ nyame kokroko no aka sɛ:

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ [الشورى: 52]

{Na sedee y'ahye Akomyefoɔ a adinkan no nkomye no saara na yeɔe Kuran Nhoma no ahye wo nkɔm firi ye nkyen, Na ansa nkomye yi na wɔ nnim Nhoma ahorɔɔ y'asane ama Akomyefoɔ no, na na wo nnim gyidie, mmom y'asane Kuran Nhoma se hann yeɔe tene deɔ yeɔe wɔ ye nkoa mu, na esipi se wo tene Nipa kɔ kwan tenenee so} [Suura Ash-shura: 52]

Na ngyinasoɔ ne nokware na wɔ Onyame nkomye mu a etene adwenpa kɔ nokware a ewɔ neɔ ɔkenkan mu ma no hu na afae ɔgyedi Onyame kokroko no aka se:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ [النساء: 174]

{ Oh Nipa eii nokware ngyinasoɔ aba mo nkyen firi mo Wura hɔ, Na y'asane hann pefee ama mo.} [Suura An-Nisa: 174]

Na Onyame krɔnkɔni kokroko no reɔe se tenenee hann ne nimdie ne nokware wɔ Onipa asetena mu, Na Abonsamfoɔ ne Abosom reɔe se Onipa ka boɔne sum ne fratam ne yera mu daa Nyame kokroko no aka se:

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ... ﴿٢٥٧﴾ [البقرة: 257]

{ Onyankopɔn ye agyidifoɔ dɔfo Ɔyi wɔn firi yera sum mu kɔ hann kwan so, Na bɔniayefoɔ adofoɔ ne Abosom wɔ yi wɔn firi hann mu kɔ yera sum mu.} [Suura Al-Bakara: 257]

39. Nkramosom ama nimdipa gyinabere so na erehye Nipa se Ɔmpɛ nimdie a akuma apɛdeɛ nka ho, na Nkramosom refre se ye nhwe ye ho ne Wiase atwa ye ho, ne nimdipa aba a efi mu ba ma Wiase, ene Nkramosom nkyerɛkyere mmɔ abera.

Nkramosom ɛma nimdipa gyinabere so Onyame kokroko aka se:

﴿... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]

{ Onyankopɔn ma Agyidifoɔ wɔn wɔ mo mu gyinabere so, Ne wɔn a y'ama wɔn nimdie, na Onyankopɔn bebɔ mo ndwumadie nyina ho amanie akyerɛ mo.} [Suura Al-Mujadala:11]

Na Onyame de nimdifoɔ adansedie aka N'adansedie ne Abɔfoɔ adansedie ho wɔ adansedie kɛsɛ mu na Onyame kokroko no aka se:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]

{Onyankropɔn adi adanse se Onyame biara nni ho ɔfata ɔsom wɔ nokware mu gye Onyankropɔn baako pɛ, Na Abɔfoɔ ne nimdifoɔ nso di adanse, na nimdifoɔ gyena pintee wɔ pɛrɛpɛrɛ yɔ mu, Nyame biara nni ho a ɔfata ɔsom wɔ

nokware mu gye Onyankropɔn baako nkunimdifoɔ ne onyansafo Nyame.} [Suuratu Al-Imrana /18]

Na eyi rekyere nimdie gynabea wɔ Nkramosom mu, na Nyame anhye ne Kɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no sɛ ɔnsere ntosoɔ wɔ biribiara mu gye nimdie mu,na Nyame aka sɛ:

[طه: 114] ﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

{“ Na ka sɛ me Awurade fa nimdie bi ka me ho!.} (Suura Taha: 114)

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:<<Obi a wafa nimdie kwan so rehwehwɛ nimdie no Nyame ayɛ Oturo kwan no merɛ ama no, na esipi sɛ Abɔfoɔ brɛ n'ataban ase ma nimdie hwehwɛfoɔ wɔ peneso, na esipi sɛ nimdie hwehwɛfoɔ biribiara a ɛwɔ Suro ne Asase mu srɛ bɔnefakye ma no mpo nsuom nam nyina sere bɔnefakye ma no, na esipi sɛ nimdie gynabea wɔ Nyamesom ni so tɛsɛ Bosome gynabea ne nsuromma a aka, na esipi sɛ nimdifoɔ adi Akɔmyɛfoɔ adeɛ, esipi sɛ Akɔmhyɛfoɔ anni sika ɛyɛ (Diinaar anaa Dirham) na mmom wɔn dii nimdie sɛ awugyade na Obi fa nimdie kwan a wafa kyɛfa kɛsɛɛ paa yie>>.Abu Daud Nhoma (3641), Tirmizi (2682),Ibin Maaja (223) na nsɛm ne, Ahmed (21715)...

Na Nkramosom rehyɛ Nipa sɛ wɔn pɛ nimdie krɔgyen a Akuma pɛdɛɛ nka ho, na ɛreferɛ sɛ wɔn nhwɛ wɔn ho ne Wiase a atwa wɔn ho, na wɔn ndwene ho, Nyame aka sɛ:

﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ ﴾ [فصلت: 53]

{ye be kyere won ye nsenkyerene wo wiem ne won honam mu kɔpim se ebɛdɛɛdi ama won se Nyame Nhoma no ye nokware, Enti Nyame adansedie nso abosomsomfoɔ se won be gye adi se Nhoma no firi Nyame nkyen, Na esipi se Onyame di biribiara ho adanseɛ} [SuuratuFussilat: 53]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ ﴾ [الأعراف: 185]

{Enti saa nkontompofɔɔ yi nhwe Ɔsoro ne Asase ahennie mu, Ne neɛ Onyame abɔ wɔ ntam, Na won nhwe won nkwa a aka kakra na won akɔ ɔsaeɛ mu, Na kɔkɔbɔ asem ben na won gyedi wɔ Kuran Nhoma yi nsem akyi bio} [Suura Al-Araf: 185]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ﴾ [الروم: 9]

{Enti saa bɔniayefɔɔ yi nnante wɔ Asase yi so na won nhwe asoɔdenefɔɔ adikanfɔɔ no awieɛ, na saa dɔm no wɔ ahɔɔdene sene won, Na won tutuufom dɔɔ afuo see adan wɔ Asase yi so tese sɛdeɛ bɔniayefɔɔ yi asisi Dan, na won Akɔmyefɔɔ de nkyerɛkyere baa won nkyen maa wɔ twaa so nkontompo, na Nyame ansisi won bere a Ɔtwee won aso sae

wɔn, Na mmom wɔn ara na de bɔniaye asae wɔn ho.} [Suura Ar-Rum: 9]

Nimdipa aba afiri mu aba ne Nkramosom nimdie mmo abera, na yebe ka nhwesɔ baako a Kuran Nhoma adikan aka ho nkyerɛkyere adɔsukɔ wɔ mu, firi bere tentene beye nfie apim baako ne aduanan akyi, na nimdie adano adi saa bere yi, Na nimdie aba afiri mu aba rekyere nee aba Kuran Nhoma no mu pɛpɛe pɛ, eno ne Abɔfra ho nkyerɛkyere wɔ ɔmaame awodee mu, Nyame kokroko aka se:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾﴾ [المؤمنون: 12-14]

{ Na nokware nokware ye bɔɔ Nipa agya (Adam) firii dɔtee mu (12) Afae ye bɔɔ n'asefo firii nkwaboa ete ɔmaa awodee mu (13) Afae ye danee nkwaboa no mogyatua wɔ awodee no mu, na ye danee mogyatua no namfua kɔkɔɔ, Afae ye bɔɔ kasɛe wɔ mogya no mu, na ye de nam adura nkasɛe no ho afae ye huu nkwa too ne mu maa no yee Nipa foforo, nhyira nka Onyankopɔn Allah ɔbɔ Abɔdeɛ na ɔbɔ no yie a hoteɛ nka no(14)" } [Suura Al-Muminun: 12-14]

40. Na Nyame ngyi Obi dwumadie mma no ho akatua wɔ atemmuada gye Nipa a wagye Nyame adi na waye sutie ama ne nsem na wagye N'aKɔmhyefɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn atumu wɔ nokware mu, Na Nyame ngye ɔsom bi gye ɔsom a wahyehye ho mmera, esiden na Nipa yi Nyame bɔniaye na ɔsan pɛ Nyame akatua pa? Na Nyame ngye Nipa biara gyedie gye sɛ ɔgye Akɔmyefɔ Nyame asomdwoe nka wɔn nyina tum, na ɔgye Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn Nhoma tumu.

Na Nyame ngyi Obi dwumadie mma no ho akatua wɔ atemmuada gye Nipa a wagye Nyame adi na waye sutie ama ne nsem na wagye N'aKɔmhyefɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn atumu wɔ nokware mu, Nyame aka sɛ:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ [الإسراء: 18-19]

{Obi a ne botaeɛ ne, ne nwumadie nyinaa be ye wiase yi mu ha asetena pa bi nti no, na wannye atemmuada da no anni no,yebeye no ntem ama no deɛ ye pɛ de ma no na mmom nye adom a ɔpɛ de ma ne ho na ɔbenya. Afei, yebema no ogya dereɛ awura mu atemmuada no, na ɔhyew no be ɔɔpa no, n'anim begu ase sɛ ɔyii wiase ha na ɔpoo atemmuada no. Ye yi no afiri Onyankopɔn[Allah] ahumɔɔbrɔ mu(18)Na obi a ɔbedi dwumadi pa na ne botaeɛ nyinaa ne sɛ ɔbenya atemmuada akatua pa no, na ɔbebɔ ne ho mmɔden mmɔdemɔ pa ara no, na wagye deɛ

Onyankopɔn ahye yen se yenye ni no adi no, na wɔnom a wɔn sohye ye saa nsohye yi, esipi se, Onyankopɔn [Allah] begye wɔnom mmɔdemmo no ato mu, na Ɔbema wɔnom mmɔdemmo no so akatua(19)..} [Suura Al-Isra, 18-19]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾ ﴾
[الأنبياء: 94]

{ Na Obibiara a ɔredi dwumadipa na ɔye gyidie ni no, ne dwumadie nnye kwa mmom ye be ma no ho nhyira na ɔbe to se y'atwere wɔ ne ndwuma Nhoma mu atemmuada } [Suura Al-Anbiya: 94]

Na Onyankopɔn kokroko ngye ne nkoa dwumadie biara gye dwumadie a Ɔno na ahyehye ama wɔn, Nyame kokroko aka se:

﴿ ..فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾
[الكهف: 110]

{ Na Obibiara a Ɔrepe se Ɔhyia ne Wura no, Ɔndi dwumadipa na ma no mfa mbataho biara nka ne Wura ho.} [Suura Kahf 110]

Na wakyere adwuma nye dwumadipa a gye dwuma a eka nee Nyame akyekye wɔ ne som mmera mu na dwumadifoɔ no adi dwuma no ama Nyame nko ara, wɔ bere a Ɔye Ogyidie wɔ Nyame mu ne nokware adansedie ma N'aKɔmhyefoɔ ne Nesomafɔɔ Nyame asomdwoe nka wɔn, Na Obi a ne ndwumadie ntesae nokware Onyame aka se:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾ [الفرقان: 23]

{ Na y'afa wɔn dwumadie a wɔn adi wɔ Asase yi so, na y'aye ndwuma no nfuture a ahwete ".} [Suura Al-Furkan: 23]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَلِشَعَةٌ ۖ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۖ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ [الغاشية: 2-4]

{... Saa dano ebi anim be bere ase(2) Wɔn abere agu na yede nkɔnsɔnkɔnsɔn na betwe wɔn (3) Saa animu no beko ogya hyew mu ma ahye wɔn. (4) } [Suura Al-Ghashiya: 2-4.]

Na saa animu a abere ase wɔ wɔn dwumadie ho, nanso bere a na wɔn di wɔn dwumadie wɔ kwan a enye Nyame kwan tenenee so no, Nyame aye ne kɔbia ogya enam se wanfa Nyame mmera adane anni dwuma mmom ɔsom yera som ahorɔɔ na ɔdii ayerafoɔ akyi, wɔn a ede yera ndwuma foforoɔ na wɔn som mu, Na Nyame gye dwumadipa tumu na dwumadipa ne dwuma a ene neɛ ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba ye pe, na ebesiden na Nipa be yi Nyame bɔniaye na ɔsan pe ne n'akatu??Na Nyame nnye Obi gyidie gye se ɔgye Akɔmyefoɔ Nyame asomdwoe nka wɔn nyina tum, na ɔgye Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no Nhoma no tum, Na y'adikan aka ngynasɔɔ efa ho wɔ kratafa (20) na Nyame aka se:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285]

{ጋsomafoጋ no anya gyedie efa deḗ y'asani ama no efiri ne Awurade hጋ ene agyediefoጋ nom, Wጋn nyinara anya gyedie efa Onyame Allaah ene N'aboafጋ ene ne Nwoma ene N'asomafoጋ na ye npraepae ጋmጋ ntem kro koraa,ena wጋn aka se: yate ye be desu, ye hwehwe bጋnefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwጋbiya..} [Suura Baqara: 285]

Na Onyame krጋnkጋnii Nጋ akase:

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

{ Oh eye moጋ deḗ maya gyedie ama Onyame Allaah ene nesomanii ene nenwoma deḗ yasoma ama nekomhyani ene deḗ yasani kanii ansaana,ena deḗ ጋbeye kaafiriya efa Onyame Allaah ene nasoroboafጋ ene nenwoma ene nesomafoጋ ene awieye eጋa na nokware wayira yiraa eware.} [Suura Nisaai: 136]

Na Onyame krጋnkጋnii Nጋ akase:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

{ጋkጋmhyeni kae bere a Nyame gye Akጋmyefጋ bጋhye denedene kaa se: seጋdeḗ m'ama mo Nhoma a y'asane wጋ mo so ne adwene a m'akyere mo ne gynabea biara Obi adu, Afae ጋsomafoጋ (Mohammed) baa mo nkyen beጋdii nokware adanseḗ wጋ neḗ wጋ mo nkyen, mo be gye neḗ ጋde aba no adi, na mo abua no, Nyame kaa se: Akጋmyefጋ nti mo agye

atumu na mo be hye bɔhye denedene? Akomyefoɔ kaa se:
aana y'agye atumu, Nyame kaa se: mo nni adanseɛ wɔ mo ne
mo dɔm so, na me nso ka mo ho wɔ adansedie mu!}]
[Suuratu Al-Imrana /81]

**41. Esipi se Nyame Nhoma nyina botae ne se:
Nokwaresom no be fre Nipa ma no aye nokwarefoɔ
ama Abɔdeɛ Wura, na ayi Nipa afiri nkoasom ma
Nipa foforo anaase biribi anaa nkontompo mu, Na
sedee wo hu Nkramosom no enkyere se Nipadua
binom ye krɔnkɔn, na Emma wɔn so nsene wɔn
gyenaberɛ, na enye wɔn Nyame foforo nso.**

Esipi se Nyame Nhoma nyina botae ne se: Nokwaresom no
be fre Nipa ma no aye nokwarefoɔ ama Abɔdeɛ Wura, na ayi
Nipa afiri nkoasom ma Nipa foforo anaase biribi anaa
nkontompo mu, Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie
nka no akase:Ɔsaeɛ aka Akoa a N'akuma bata sika (Diinaar
ne Dirham) ne mmerima ntaade ne mmaa ntaade, se yema
no bi a na n'ani agye na se ye bra no bi a na newere aho. Al-
Buhari Nhoma 6435

Na Nipa a watene no ɔmberɛ ne ho ase mma biribiara gye
Nyame nko na Sika ntumi nye no Akoa anaase Obi
animonyam anaase Dibere bi anaase Abusua, na
nkyerekyerɛ saa abakɔsem yi mu a erekyere Ɔkenkan ni deɛ
na Nipa wɔ mu bere a Nyame nsem yi nniho ne sedee wɔn
setee wɔ nsem no akyi. Bere a Nkramofoɔ a adikane no tuu
Batatuo kɔ (Ethiopia) no, na ɔhene a ɔwɔho saa bere no ne
Annagyahyi (An-najashi), Ɔbusaa wɔn kaa se: Edeen ne saa

som yi a mo de atete mo dɔm mu, na mo anwura me som mu anaa ɛdɔm bi som?dwafar (Jafar) Abi Taalib ba ka kyere no se:Ɖhene eii na ye ye dɔm a ye ye fratamfoɔ ye som Abosom na ye di Aboafunu nam, na ye bo adwaman ye tete Abusua ntam, na ye ye wɔn a ete ben ye boɔne, nee wo tumi wo ye mu tuhye nee ɔye mere so, na saa abrabo na ye wo mu, Kɔpim se Onyame somaa Ɖsomafoɔ wo ye mu a ye nim n'ase (n'abusua) ne nokwareɔdie, ne subanpa wo ahwesodee ne nhyesoɔ ho, na Ɖfrɛe ye se ye nye Nyame kro na ye nsom no, na ye ngyae nee ye som, yen ne y'awofo a enye Nyame wo mmoba ne abosom, na wahye yen nokware ka, ne nhwesodee ho banbo, ne Abusua nkabom ne papaye ma wɔn a ete ben ye, na ye ngyae boɔne ne mogya hwie, na wabra yen adwaman ne nkontompo adansedie ne Agyanka sikadie ne ntwantosɔ wo agyidifoɔ mmaa so, na wahye yen se ye nsom Nyame nko ara, na ma ye nsom biribiara nka ne ho, na wahye yen asɔreye (Sallah) ne ntotosɔ dudu ne akɔmkyene, Ɖkaa se: na ɔbubɔ Nkramosom asedee kyeree no, na ye gyee ne nokware tuumu nyaa gyidie wo ne mu, na ye dee n'akyi wo dee ɔde aba, na ye som Onyame baako na y'ansom biribiara anka ne ho, na ye yee nee waye no akyiwade wo ye so akyiwade, na ye maa nee wama ho kwan nso ho kwan.Muslimu Nhoma (1740) ne nsesaye kakra, ne Abu Naim wo Hulyatul Awuliya Nhoma mu (1/115) wa bo no tofa.Na sedee wo hu Nkramosom nfa Nipa se wɔn ye krɔnkɔn na Emma wɔn so nsene wɔn gyenabere, na enye wɔn Nyame foforo.Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

{“Ka se Oh Nhomafu eii mo mbra na ye nso asem baako a eyere wo ye ne mo nyina ntam, ene se ma ye nsom biribiara gye Onyankorɔn na ma ye nfa mmataho nka ne ho, na ma ye nfa yɔnkɔɔ se Nyame wo Nyankorɔn akyi, Na se wɔn dane wɔn ani firi nokware ne perepere nsem ho a, Agyidifoɔ mo nka nkyere wɔn se mo ndi adanseɛ se ye de ye ho atwere Onyame na ye ye Nkramfofoɔ.} [Suuratu Al-Imrana /64]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 80]

{“Na ense mfata se ɔbe hye mo se, mo nfa Abɔfoɔ ne Akɔmyefoɔ se Onyame na mo nsom wɔn ngyae Nyankorɔn baako no, nti eyi fata anaa? Se ɔbe hye mo se ma mo nye Nyame nni wo mo ahoberɛaseɛ ne awerehyemu a mo ada no ade wo Onyame mu na mo ye Nkramfofoɔ” } [Suuratu Al-Imrana: 80]

Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Ma mo nkamfo me pii tese seɛe Akristofo kamfo Yesu (Jesus) na mmom me ye Onyame Akoa nti mo nka se Nyame Akoa ne ne Somafoɔ.Buhari Nhoma 3445.

42. Nyame aye ad wene sakra wɔ Nkramofɔɔ sɛ kwan a Nipa de sakra kɔ ne Wura nkyɛn na ɔgyae bɔne, Na Nkramosom pepa dwumabɔne a, adikan, na adwene sakra nso pepa bɔne a atwam, nti ɛnni sɛ Obi ka ne bɔne na ɔgye tum wɔ Nipa anim.

Nyame aye adwene sakra wɔ Nkramofɔɔ sɛ kwan a Nipa de sakra kɔ ne Wura nkyɛn na ɔgyae bɔne, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]

{ Na mo nya adwene sakra nkɔ Nyame nkyɛn mo nyina ara, Oh Agyidifɔɔ sɛdeɛ ɛbe ye a mo be di nkunimdie } [Suura An-Nur: 31]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 104]

{ Nti wɔn nnim sɛ Onyankopɔn regye adwene sakra wɔ ne nkoa hɔ, na ɔregye adɔye ma ho nhyira, na ɛsipi sɛ Nyankopɔn na de bɔne kye na ɔne ɔdeɛfoɔ hene } [Suura At-Tawba: 104]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]

{ ɔno Onyankopɔn ne Nyame a ɔregye adwene sakra wɔ ne nkoa hɔ, na ɔde bɔne kye, na ɔnim dwumadie mo di. } [Suura Ash-Shura: 25]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasε:Ɖsipi sε Onyankopɔn wɔ anigyee kεsεε wɔ N'akoa gyidie ni a wa nya adwene sakra mu, sene Obi a waduru Asase bi a ɔsaeε asetena nye yie wɔ so, na N'aboa ɔteso ka ne ho, n'aduane ne ne nsuo wɔ Aboa no so, Na nna afa no bere a wasi rehome, na bere a ɔnyaneε no, na N'abua no kɔ na ɔnhwehwε Aboa no kɔpim sε nsukɔm deε no, Afae Ɖkaa sε: me sane akɔ me dabere akɔ da ma owuo abε fa me, na ɔde ne tiri soo ne soneε so sε owuo nfa no, na bere a ɔɔree no na N'abua no gyina ne so, na n'aduane ne ne nsuo ne biribiara wɔ Aboa no so, Na Onyam wɔ anigye kεsεε Akoa N'akoa a ɔbε sakra sene saa Akoa gyidini yi wahu N'aboa.Musilimu Nhoma 2744

Na Nkramosom sεε neε dinkan wɔ bɔne mu, na adwene sakra nso pepa bɔne a adinkan, Onyame kokroko No akasε.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتٌ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 38]

{Ka kyere wɔn a εye boneyefɔw a wɔ ngye Onyame nni no sε: sε wɔn sakra gyae bɔne a yeɔde wɔn bɔne a atwam bε kye wɔn, Na sε wɔ san wɔn akyi kɔdi bɔne no bio a nokware sε tetefɔw kwan no dahɔ, εne sε ye asotwe beba wɔn so prekopε.} [Suura Al-Anfal: 38]

Na Onyankopɔn afre Akristofo sε wɔn sakra, Na Okokroko na aka sε:

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 74]

{ Enti wɔn nsakra nkɔ Onyankopɔn nkyɛn, na wɔn nsere bɔnefakye, Na Onyankopɔn Allah ye bɔnefakye hene Ahomɔburɔ hene.} [Suura Al-Maida: 74]

Onyame ahyɛ asoɔdenefoɔ ne abɔneyefoɔ nyina ara nkuran wɔ adwene sakra ho, Na Okokroko na aka sɛ:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53]

{ " Ka sɛ Oh me nkoa a mo adi bɔne aseɛ mo kra, ma mo mpa aba wɔ Onyame ahomɔburɔ mu, Esipi sɛ Onyankopɔn nade bɔne nyina kye, esipi sɛ Ɔno ne bɔnefakye hene ahomɔborɔ hene.} [Suura Az-Zumar: 53]

Na bere a, Amru Asu ba berima sii ginyaye sɛ Ɔbe sakra no, ɔsuroo sɛ ne bɔne a wayɛ ansa Ɔreba Nkramosom mu ye nfa nkyɛ no, Amro aka wɔ gynabere yi mu sɛ: Bere a, Onyankopɔn Ɔkesefoɔ nkonimdifoɔ de Nkramosom too m'akoma mu no, Ɔkɔ so kaa sɛ: me baa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka nkyɛn sɛ ɔmmɔ m'akyi dɔm na Ɔtene ne nsa maa me, na me kaa sɛ: me mmɔ w'akyi dɔm kɔpim sɛ wode me bɔne a adinkan bekyɛ me, na Onyame Somafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ka kyere me sɛ: Oh Amro eii nti wo nnim sɛ batatuo pepa bɔne a adinkan, Amro eii wo nnim sɛ Nkramosom de bɔne a adinkan kye Obi a wanya adwene sakra. Muslimu Nhoma (121) ebaa tentene, ne Ahmed Nhoma (17827) na eyi ye ne nsem.

43. Na Nkramosom mu twaka a εda Nipa ne Onyame ntam ye prεkope, na wo nhia se Obi be wε wo ne Onyame ntam, Nkramosom rebra se ye be ye Onipa Nyame anaase yede no be ka Onyankopɔn ho wε Onyame ndwumadie ne ne εsom mu.

Wε Nkramofɔɔ mu εnhia se wo be ka wo bɔne na w'agye atum wε Onipa anim, Nkramosom mu twaka a εda Nipa ne Onyame ntam ye prεkope, na wo nhia se Obi be wε wo ne Onyame ntam tese sedee aba wε kratafa (36) mu se, Onyankopɔn kokroko afre Nipa nyina ara se wɔn nya adwene sakra na wɔn nsakra nkɔ ne nkyen, na Ɔno ara na asane abra, Nipa se ma wɔn nfa Akɔmyefɔɔ ne Abɔfɔɔ se adantamu wε Ɔne ne nkoa ntam, na Onyame kokroko aka se:

﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 80]

{Na ense mfata se Ɔbe hye mo se, mo nfa Abɔfɔɔ ne Akɔmyefɔɔ se Onyame na mo nsom wɔn ngyae Nyankopɔn baako no, nti eyi fata na anaa? Se ɔbe hye mo se ma mo nye Nyame nni wε mo ahoberεasee ne awerehyemu a mo ada no ade wε Onyame mu} [Suuratu Al-Imrana: 80]

Nkramosom rebra se ye be ye Onipa Nyame anaase yede no be ka Onyankopɔn ho wε Onyame ndwumadie ne ne εsom mu:

﴿ اتَّخِذُوا أَحِبَّائِهِمْ وَرَهْبَائِهِمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31]

{Jewfo de wɔn nimdifɔw aye Nyame na Akristofo de wɔn Nyamesomfɔw aye wɔ Onyankɔpɔn no akyi, na Akristofo aye Yesu (Jesus) Nyame aka Onyankɔpɔn ho, na ye nhye wɔn biribiara gye se wɔn nsom Onyame baako pe, Nyame biara nni hɔ a gye Ɔno ahotee nka no fa deɛ wɔn resom bata ne ho.} [Suura At-Tawba: 31]

Na Onyame apo se a bɔniayefɔw rebefa adantamu wɔ wɔn ne no ntam. Onyame kokroko aka se:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾﴾ [الزمر: 3]

{"Nti enye Onyame na wɔ esom a abosomsem biara nni mu, na wɔn a agya Nyame hɔ na wɔn afa Abosom se wɔn adɔfo na wɔn resoma abosom gyaɛ Nyame som, na wɔn reka se: ye nsom wɔn biribiara nti gye wɔn de ye ben Awurade nkyen na wɔn de ye adeseredede to n'anim, esipi se Onyankɔpɔn be bua aten wɔ Agyidifɔw ne abosomsomfɔw ntam eɗa atemmuada wɔ nsem a wɔn di ho akyenyedie no, esipi se Onyankɔpɔn ntene Obi a Ɔye nkontomponi a Ɔngye Nyame nni.} [Suura Az-Zumar: 3]

Na Onyame akyerɛ se Abosomsomfɔw - fratam bere nkorɔfo no na wɔn fa adantamu wɔ wɔn ne Onyame ntam, na wɔn reka se : esipi se eɗe wɔn be ben Onyankɔpɔn. Na se Onyame abra se Nipa be fa Akɔmyefɔw anaase Abɔfoɔ adantamu wɔ Ɔne ne nkoa ntam deɛ a ; na Obibiara nfata eɗeen nti, efiri se Akɔmhyefɔw ne Asomafoɔ Onyame asomdwoe nka wɔn keka wɔn ho wɔ kwan wɔn be ben

Onyankopɔn mu, na Onyankopɔn kokroko aka Akɔmhyefoɔ ne Asomafɔɔ ho nsem se:

﴿... إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَدِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾
[الأنبياء: 90]

{ Esipi se na wɔn keka wɔn ho wɔ asotie ne papaye mu na wɔn bɔ mpae fre ye a, wɔn pe ye ahomɔburɔ na wɔn Suro ye asotwe, na wɔn ye Nyame sorofɔɔ wɔn Suro yen.} [Suura Al-Anbiya: 90]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا...﴾ (٥٧) [الإسراء: 57]

{Na wɔn a wɔsu fre wɔn wɔ abɔfɔɔ mu ne wɔn a wɔka abɔfɔɔ ho, wɔn ankasa mpo no(abɔfɔɔ, akomhyefoɔ ne awufɔɔ) a wɔsu fre wɔn se wɔmmoa wɔn no, wɔpe dwumadi pa a ebema wɔaben Nyankopɔn, na wɔde sottie ne nyamesom ye akansie wɔ wɔntam se, hwan na ɔbetumi de sottie aben Nyankopɔn paa yie, saa ara nso na wɔpe se Nyankopɔn hu wɔn mmɔbɔ, na wɔsuro se Nyankopɔn betwe wɔn aso, oh ɔsomani ee! esi pi se, wo wura Nyankopɔn mpɔnse no ne adee a ewɔ se obiara ye ahweyie wɔ ho.} [Suura Al-Isra: 57]

Kyere se wɔn a mo fre wɔn a enye Nyame no, wɔ Akɔmhyefoɔ ne Aparafɔɔ mu no, wɔn ara mpo de dwumadipa reben Nyame repe ne ahomɔburɔ na wɔn resuro n'asotwe, na edeen nti na wɔ fre wɔn sere wɔn ade gyae Onyankopɔn kokroko.

44. Krataa yi awieε mu ye ka se sedef Nipa bere ahoroɔ na wɔn dɔm ahoroɔ ne wɔn kuro ahoroɔ mpo Nipa kwasafɔ nyina bɔ abera, wɔ adwene ne botae, ne kwasafɔ ne ndwumadie ahoroɔ bɔ abera, na Ɔhia Nipa nkyerekyerε ne nhyehyee εbe ye nkabom, ne atenboafɔ a ɔbe bu aten, Na Asomafɔɔ akɔnkɔfo no Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn, wɔn na de Nyame nkɔmhye hwe saa ndwuma yi so, na wɔn tene Nipa kɔ kwanpa ne tenenee so na wɔn aboa Nipa wɔ Nyame mera so na wɔn bu aten tenenee wɔ wɔn ntam wɔ nokware mu, na wɔn ndwuma aye yie enam asotie a wɔn ye maa Asomafɔɔ yi nti, ne wɔn mere a εben Onyame kɔmhye mere, na Onyame de Ɖkɔmhyeni Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkɔmhye atwa akɔmhye nsem nyina toɔ, na wabɔ ho ban, na waye no tenenee ne ahomɔburɔ ama Nipa ne hann ne akwan kyere a εde wɔn be kɔ Onyame krɔnkɔn nkyen..

Krataa yi awieε mu ye ka se sedef Nipa bere ahoroɔ na wɔn dɔm ahoroɔ ne wɔn kuro ahoroɔ mpo Nipa kwasafɔ nyina bɔ abera, wɔ adwene ne botae, ne kwasafɔ ne ndwumadie ahoroɔ bɔ abera, na Ɔhia Nipa nkyerekyerε ne nhyehyee εbe ye nkabom, ne atenboafɔ a ɔbe bu aten, Na Asomafɔɔ akɔnkɔfo no Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn, wɔn na de Nyame nkɔmhye hwe saa ndwuma yi so, na wɔn tene Nipa kɔ kwanpa ne tenenee so na wɔn aboa Nipa wɔ Nyame mera so na wɔn bu aten tenenee wɔ wɔn ntam wɔ nokware mu, na wɔn ndwuma aye yie enam asotie a wɔn ye maa Asomafɔɔ yi nti ne wɔn mere a εben Onyame

kɔmhyɛ merɛ, na bere a yera ne fratam adɔɔso wɔ bɔbiara ne abosomsom no; Onyame de tenenee ne nokwaresom somaa ne Kɔmhyɛni Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no sɛ Ɔnyi Nipa nfiri bɔniayɛsum ne fratam ne abosomsom mu nkɔ gyidie ne tenenee kwan so. Enam eyi nti me refrɛ wo Onipa eii sɛ wo bɛgyina wɔ nokware mu ma Nyame nsuasua amamerɛ ne amanɛɛ, na hu sɛ ɛsipi sɛ wo wuo akyi wo bɛ wo wura nkyɛn, na hwɛ wo ho ne Wiase a atwa wo ho, enam eyi nti fa wo ho ma Nyame fa Nkramosom na w'ani bɛ gye wɔ wo wiase asetena ne wo atɛmmuada asetena mu.

45. Na se wo pe se wo wura Nkramosom mu a biribiara nni wo so gye wo di adanse se Onyame biara nni ho a ofata Nyamesom wo nokware mu gye Nyame fua baako no nko, na Mohammed ye Onyame Somafo, na twe wo ho firi bibiara a yesom a enye Nyame ho, na ye ngye nni se nokware Onyame be nyani won a ewo samanpo mu, na atemmuada atemmuo ne akatua no ye nokware, na se wo di saa adansedie yi a nokware waye Kramoni, na wae akyi no nee da wo so ne se wo be som Onyankopon wo kwan a wahye so wo Asoreye mu, Akomkyene, Nyame fie akwantuo se wo nya ho tumi. Enam eyi nti me fre wo Onipa se gyina ma Nyame wo nokware mu, na twe wo ho firi asuasua ne amamerε ho, tese sedee Nyame kokroko afre Nipa wo n'asem mu se.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفٍ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ جَانٌّ ذَلِيلٌ﴾ [سبأ: 46]

{ Okomhyeni ka kyere won se: esipi se me tumo fo wo suban baako ho, ene se mo ntwe mo ho nfiri akonno bone ho na mo sore mma Allah mienu mienu ne baako baako, na mo ndwene nhunu nfa mo yonko yi ho, Ommoo dam esipi se onye Obiara gye Kokoboni de ma mo ansa Nyame asomdwoe aba mo so se mo angye ne sem antumu.} [Suura Saba: 46]

Na hunu se wo wuo akyi no wo be ko wo Wura nkyen Nyame kokroko aka se:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾﴾ [النجم: 39-42]

" Na Onipa nni biribiara gye ne dwumadie a wadi ho nhyira³⁹) Na ne dwumadie be daadi pefee wo atemmuada Afae na y'ama ne dwumadie ho nhyira (40) wo bere a seneto biara nni (41) Na esipi wo Dokomhyeni Wura nkyen na won nyina ara be ko Owuo akyi(42)..} . [Suura An-Najm: 39-42]

Na hwe wo ho ne Wiase a atwa wo ho Nyame kokroko aka se:

﴿أُولَٰئِكَ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ [الأعراف: 185]

{Enti saa nkontompofo wo yi nwe Osoro ne Asase ahennie mu, Ne nee Onyame abo wo nta, Na won nwe won nkwa a aka kakra na won ako saae mu, Na kokobo asem ben na won gyedi wo Kuran Nhoma yi nsem akyi bio" } [Suura Al-Araf: 185]

Nti sakra fa wo ho ma Nyame na wo be nya anigyee wo wo wiase ne atemmuada asetena mu, na wo pese wo wura Nkramosom mu a nee da wo so a ne se wo be di adanse se Nyame biara nniho a ofata esom wo nokware mu gye Onyame baako no nko, na Mohammed ye Nyame Somani. Na bere a Osomafoko Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwe nka no somaa Muaz wo Yemen kro mu se onko bo dawuro nfre Nipa nko Nkramosom mu no Jka kyerere no se:(Esipi wo be hu dom bi wo kwan so a won ka Nhomafoko ho fre won ko adansedie ho na won nni adanse se Nyame biara nniho a ofata esom wo nokware mu gye Onyame baako no nko na

me ye Nyame Somani, Na se won ye sutie ma wo a kyere won se Onyame aye asore mpre num nhye da won so adekyee ne adesae biara mu, na won ye sutie ma wo a, kyere won se Onyame aye adoye (Sadaka) nhye da won so eye sika a yegye firi won Asikafoɔ nkyen ma won Ahiafoɔ, na se won ye sutie ma wo a ye ahweyie wo won sika kɔnkɔn ho). Musilimu Nhoma 19 Na twe wo ho firi biribiara Obi som a enye Nyame, na saa ntweho firi nee won som no kyere Abraham Nyame Asomdwoe nka no kwan tenenee no, Nyame aka se.

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ...﴾ [الممتحنة: 4]

{ “Nokware mo asuasua pa wo Abraham ne agyidifoɔ a won ka ne ho, bere a won ka kyere won dom se: esipi ye ne mo ntam wa na yatwe ye ho afiri mo ho ne nee mo som a enye Nyame, y'ayi mo boniaye na ctan ne abufuo wo ye ne mo ntam daa kopim se mo be gye Nyame baako pe no adi } [Suura Al-Mumtahina 4]

Na gyidi se Nyame be nyane won ewo Samanpo mu Onyame aka se:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: 6-7]

{ Eyi kyere se esipi se Nyame ne nokwarefoɔ, na Ono na nyane Awufoɔ, na Ono na wo biribiara so tumi(6)Na esipi se emere keseɛ no (atammuada) reba akyinnye biara nni ho, na

εσιπι σε Onyame renyane wɔn εwɔ Samanpɔ mu. (7) "}
[Suura Al-Haj 6-7]

Na εσιπι σε nkontabuo no ne akatua no ye nokware Nyame
aka σε:

﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 22]

{ Na Onyame bɔɔ Ɔsoro ne Asase wɔ nokware mu, ne sedee
εβε ye a Kra biara be nya nee waye ho akatua na ye nsisi
wɔn kakra koraa.} [Suura Al-jathiya 22]

Na σε wo de saa adansedie yi a waye Nkramoni na wae
akyi nee dawo so ne σε wo be som Nyame wɔ kwan a
wahyehye so asɔreye ne zakayie ne akɔmkyene ne Nyame
fie ho kwantuo σε wo hya so tumi a ne dee kekaho. Bere a
Nhoma yi pueε 19-11-1441

Nhoma yi twerefoɔ Dɔkuta Mohammed Abdullah ba As-Sahiim. Ɔkyerɛkyerɛni a wadɔ sukɔ wɔ gyidie nimdie mu, wɔ ɛfa a ɛfa Nkramosom adesua ho (ɛdikan).

Nteteɛ Suapong kɛseɛ Ɔhene Suud (Malik Su-ud).

Saudi Arabia man Ahenkro Riyad.

